


**BOSE**<sup>®</sup>



---

# Bose<sup>®</sup> SoundTrue<sup>®</sup> Ultra

in-ear headphones

designed for Samsung Galaxy devices and select Android™ devices

---

Owner's Guide | Brugervejledning | Bedienungsanleitung | Gebruikershandleiding

Guía del usuario | Käyttöohje | Notice d'utilisation | Manuale di istruzioni

Kezelési útmutató | Brukerveiledning | Podręcznik użytkownika | Bruksanvisning

ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ | 사용자 안내서 | 用户指南 | 使用者指南 | オーナーズガイド | دليل المالك

# Important Safety Information

Please read this owner's guide carefully and keep for future reference.



## WARNINGS:

- DON'T** use the headphones at a high volume for any extended period.
  - To avoid hearing damage, use your headphones at a comfortable, moderate volume level.
  - Turn the volume down on your device before placing the headphones in your ears, then turn the volume up gradually until you reach a comfortable listening level.
- DO** use caution and follow applicable laws regarding mobile phone and headphone use if using the headphones for phone calls while driving. Some jurisdictions impose specific limitations, such as single earpiece configuration, on the use of such products while driving. **DON'T** use the headphones for any other purpose while driving.
- DO** focus on your safety and that of others if you use the headphones while engaging in any activity requiring your attention, e.g., while riding a bicycle or walking in or near traffic, a construction site or railroad, etc. Remove the headphones or adjust your volume to ensure you can hear surrounding sounds, including alarms and warning signals.
- DON'T** use mobile phone adapters to connect headphones to airplane seat jacks, as this could result in personal injury such as burns or property damage due to overheating.
- DO** remove headphones and disconnect immediately if you experience a warming sensation or loss of audio.
- DON'T** submerge or expose for extended period to water, or wear while participating in water sports, i.e. swimming, waterskiing, surfing, etc.
- DON'T** let the headphones or accessories get wet. Exposure to moisture may increase the risk of fire or electric shock.
- DON'T** place naked flame sources, such as lighted candles, on or near the product.



**WARNING:** Contains small parts which may be a choking hazard. Not suitable for children under age 3.



**WARNING:** This product contains magnetic material. Contact your physician if you have questions on whether this might affect the operation of your implantable medical device.



This product conforms to all applicable EU directive requirements. The complete declaration of conformity can be found at [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

Names and Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements						
Toxic or Hazardous Substances and Elements						
Part Name	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybrominated Biphenyl (PBB)	Polybrominated diphenylether (PBDE)
PCBs	X	0	0	0	0	0
Metal parts	X	0	0	0	0	0
Plastic parts	0	0	0	0	0	0
Speakers	X	0	0	0	0	0
Cables	X	0	0	0	0	0
This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364. 0: Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. X: Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.						

About your Bose® SoundTrue® Ultra in-ear headphones.....	4
Unpacking .....	5
Connecting to your device .....	6
Using the headphones with your device.....	6
Headphone controls .....	6
Basic functions .....	7
Media playback functions .....	7
Importance of proper fit.....	8
Fitting the headphones to your ear .....	8
Changing the ear tips .....	9
Removing the headphones .....	9
Adjusting for comfort and stability.....	10
Using the adjustment slider .....	10
Using the clothing clip .....	10
Using a single earpiece.....	10
Troubleshooting .....	11
Cleaning.....	12
Limited warranty .....	12

Samsung Galaxy is a trademark of Samsung Electronics Co., Ltd.  
Android is a trademark of Google Inc.

**Please complete and retain for your records:**

The serial and model number can be found on the original shipping carton and on the warranty card.

Serial number \_\_\_\_\_

Model number \_\_\_\_\_

Purchase date \_\_\_\_\_

We suggest you keep your receipt with this owner's guide.

## Using the headphones

---

# About your Bose® SoundTrue® Ultra in-ear headphones

---


The Bose® SoundTrue® Ultra in-ear headphones offer a combination of lifelike audio performance and comfortable fit not available from most conventional headphones.

### Features

- Enjoy your music with deep, clear sound and full immersion.
- Exclusive TriPort® technology delivers natural-sounding lows, even at higher volumes.
- Inline microphone and remote for easy switching between calls and music with Samsung Galaxy devices and select Android devices.
- StayHear® tips keep your headphones comfortably in place.
- Engineered and tested for lasting quality and durability.
- Carrying case stores and protects headphones.
- Available in different colors to fit your style.

## Unpacking

Carefully unpack the carton and confirm that the following parts are included:



**Note:** The headphones come with medium (gray) StayHear® Ultra tips attached.


# Using the headphones

---

## Connecting to your device

---

Connect the headphones to the standard 3.5 mm headphone connector on your device.




## Using the headphones with your device

---

The Bose® SoundTrue® Ultra in-ear headphones come with an inline microphone and 3-button remote.

**Note:** The S marking on the back of the remote indicates that these headphones are designed for use with Samsung Galaxy devices and select Android devices. Full controls may not be available for some models or applications. Refer to your device user's guide to see if remotes work with your model.

## Headphone controls



## Basic functions

Increase volume	Press and release the + button.
Decrease volume	Press and release the – button.
Answer a call	When you receive an incoming call, press and release the Answer/End button to answer.
End a call	Press and release the Answer/End button.
Decline an incoming call	Press and hold the Answer/End button for about two seconds, then release.
Switch to an incoming or on-hold call and put the current call on-hold	While on a call, press and release the Answer/End button once. Press and release again to switch back to the first call.
Switch to an incoming or on-hold call and end the current call	While on a call, press and hold the Answer/End button for about two seconds, then release.
Use voice control	Press and hold the Answer/End button. For more information on voice control, refer to your device user's guide.

## Media playback functions

Play or pause a song or video	Press and release the Answer/End button.
Skip forward	Press and release the Answer/End button twice quickly.
Skip backward	Press and release the Answer/End button three times quickly.

# Using the headphones

## Importance of proper fit

For optimum audio performance, it is important to choose the correct size StayHear® Ultra tip. Select the size that gives you the best comfort and fit in each ear. You may need to try all three sizes to determine the best fit.

**Note:** To test the fit, try speaking aloud. Your voice should sound muffled in both ears. If not, select another tip size.

Each tip is marked with either an L or an R. Be sure to attach the left tip (L) to the left earpiece and the right tip (R) to the right earpiece.




## Fitting the headphones to your ear

The StayHear® tip allows the earpiece to rest comfortably in the bowl of your ear. The wing part of the tip fits just under your ear ridge.

### To determine if the tip is the right size:

1. Insert the headphone into the ear so the tip gently rests in the opening of the ear canal.
2. Tilt the headphone back and press the tip wing under the ear ridge until it is secure.


The tips should fit comfortably yet securely in the bowl of the ear.





## Changing the eartips

1. Gently peel the edges of the attached tip away from the earpiece, using care not to tear the tip.  
**Caution:** To prevent damage, do not pull on the StayHear® Ultra tip wing.
2. Position the opening of the new tip over the nozzle and the small slot over the nozzle hook.
3. Ease the base of the tip down around the base of the earpiece until the tip feels secured.



## Removing the headphones

The eartip may form a tight seal inside the ear. Use a slow, twisting motion to gradually break the seal before removing the headphones.

# Using the headphones

---


## Adjusting for comfort and stability

---

There are several ways you can adjust your headphones to provide additional comfort and stability. You can customize how you wear your headphones using the adjustment slider and clothing clip.

### Using the clothing clip

Use the clothing clip to fasten the cable to your clothing, for convenience, stability, and to help manage the cable. This can be helpful during high-movement activities or when using the headphones in a single earpiece configuration.



### Using a single earpiece

The Bose® SoundTrue® Ultra in-ear headphones can be used with only the right (R) earpiece in your ear. This allows you to take calls and still hear surrounding sounds.

## Troubleshooting

If you experience any trouble using your headphones, try the following troubleshooting instructions.

Problem	What to do
No audio/intermittent	<ul style="list-style-type: none"><li>• Securely connect the headphone cable to the 3.5 mm headphone connector on your device.</li><li>• Try another eartip size.</li><li>• Try another device.</li></ul>
Excessive bass	<ul style="list-style-type: none"><li>• Turn off any audio enhancement features on the audio source.</li></ul>
Microphone is not picking up sound	<ul style="list-style-type: none"><li>• Make sure you are using a compatible device.</li><li>• Securely connect the headphones plug to the headphone input.</li><li>• Make sure the microphone opening on the back of the Answer/End button is not blocked.</li><li>• Try another phone call.</li><li>• Try another device.</li></ul>
Device not responding to remote (button) presses	<ul style="list-style-type: none"><li>• Securely connect the headphone cable to the 3.5 mm headphone connector on your device.</li><li>• For multi-press functions: Vary speed of presses.</li></ul>
Device not responding to remote	<ul style="list-style-type: none"><li>• Full controls may not be available for some devices or applications.</li></ul>
Ear tips falling off	<ul style="list-style-type: none"><li>• Securely attach the eartips to the earpiece and nozzle hook.</li></ul>
Lost ear tip	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contact Bose for replacement tips.</li></ul>
Sound is muffled from earpiece	<ul style="list-style-type: none"><li>• Clear any debris or wax build-up from the eartips and headphones nozzles.</li><li>• Unplug the headphones from the audio source, then plug back in making sure they are securely connected.</li><li>• Try another device.</li></ul>

# Vigtige sikkerhedsoplysninger

Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere.



## ADVARSLER:

- Brug **IKKE** hovedtelefonerne ved høj lydstyrke gennem længere tid.
  - For at undgå høreskader skal du bruge hovedtelefonerne med et behageligt, moderat lydstyrkeniveau.
  - Skru ned for lyden på din enhed, inden du placerer hovedtelefonerne i dine ører, skru derefter gradvist op for lyden, indtil du når et behageligt lytteniveau.
- **VÆR** forsigtig i din brug, og følg lokal lovgivning vedrørende brug af mobiltelefoner og hovedtelefoner, mens du kører. I nogle jurisdiktioner gælder der særlige begrænsninger som f.eks. konfigurationer med ét ørestykke for brugen af sådanne produkter under kørslen. Brug **IKKE** hovedtelefonerne til noget andet formål, mens du kører bil.
- **FOKUSER** på din og andres sikkerhed, hvis du bruger hovedtelefonerne i en aktivitet udenfor, der kræver din opmærksomhed, f.eks. når du kører på cykel eller bevæger dig i nærheden af trafik, en byggeplads eller jernbanen osv. Fjern hovedtelefonerne, eller skru ned for lydstyrken for at sikre, at du kan høre omgivende lyde, inklusive alarmer og advarselssignaler.
- Brug **IKKE** mobiltelefonadaptere til at tilslutte hovedtelefoner til flysædestik, da dette kan medføre personskader som f.eks. forbrændinger eller tingsskader som følge af overophedning.
- **FJERN** hovedtelefonerne, og sluk dem med det samme, hvis du føler varme, eller hvis lyden forsvinder.
- Produktet må **IKKE** nedsænkes i vand eller udsættes for vand eller slid i længere tid, mens du deltager i vandsport som f.eks. svømning, vandski, surfing osv.
- Lad **IKKE** hovedtelefonerne eller tilbehør blive vådt. Udsættelse for fugt kan øge risikoen for brand eller elektrisk stød.
- Placer **IKKE** ikke nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt på produktet.



**ADVARSEL:** Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.



**ADVARSEL:** Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.



Dette produkt lever op til alle relevante krav i EU-direktiverne. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)



Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskyttelse naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationsselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

## Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer

### Giftige eller farlige stoffer og elementer

Delens navn	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybromeret biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	X	O	O	O	O	O
Metaldele	X	O	O	O	O	O
Plastikdele	O	O	O	O	O	O
Højtalere	X	O	O	O	O	O
Kabler	X	O	O	O	O	O

Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364.

O: Angiver, at dette nævnte skadelige stof, som findes i alle de homogene materialer for denne del, er under grænsekravet i GB/T 26572.

X: Angiver, at dette nævnte skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572.



Om dine Bose® SoundTrue® Ultra in-ear hovedtelefoner .....	4
Egenskaber .....	4
Udpakning.....	5
Tilslutning til din enhed .....	6
Anvendelse af hovedtelefonerne sammen med din enhed .....	6
Hovedtelefonknapper.....	6
Grundlæggende funktioner .....	7
Medieafspilningsfunktioner .....	7
Vigtigheden af en god pasform.....	8
Tilpasning af hovedtelefonerne til øret.....	8
Ændring af øreindsatser .....	9
Sådan tager du hovedtelefonerne af .....	9
Justering for at sikre komfort og stabilitet .....	10
Sådan bruges tøjclipsen .....	10
Anvendelse af en enkelt øreknop .....	10
Fejlfinding .....	11

Samsung Galaxy er et varemærke, der tilhører Samsung Electronics Co., Ltd.  
Android er et varemærke tilhørende Google Inc.

## **Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed:**

Serie- og modelnummeret kan findes på den originale forsendelsesæske og kortet med garantien.

Serienummer \_\_\_\_\_

Modelnummer \_\_\_\_\_

Købsdato \_\_\_\_\_

Vi anbefaler, at du opbevarer kvitteringen sammen med denne brugervejledning.

# Anvendelse af hovedtelefonerne

---

## Om dine Bose® SoundTrue® Ultra in-ear hovedtelefoner

---


Bose® SoundTrue® Ultra in-ear hovedtelefoner tilbyder en kombination af naturtro lyd gengivelse og behagelig pasform, der ikke fås med de fleste konventionelle hovedtelefoner.

### Egenskaber

- Nyd din musik med dyb, klar lyd og intens fordybelse.
- Eksklusiv TriPort®-teknologi giver lyde, der lyder naturligt, selv ved høje lydstyrker.
- Den indbyggede mikrofon og fjernbetjening gør det nemt at skifte mellem opkald og musik med Samsung Galaxy-enheder og udvalgte Android-enheder.
- StayHear® øreindsatser sørger for, at dine hovedtelefoner sidder behageligt fast.
- Udviklet og testet for varig kvalitet og holdbarhed.
- Bæretaske opbevarer og beskytter hovedtelefonerne.
- Findes i flere farver, der passer til din stil.

## Udpakning

Pak omhyggeligt kassen ud, og kontrollér, at følgende dele er med:




**Bemærk:** Hovedtelefonerne leveres med StayHear® Ultra-øreindsatser i mellemstørrelse (grå) sat på.

# Anvendelse af hovedtelefonerne

## Tilslutning til din enhed

Slut hovedtelefonerne til 3,5 mm standardhovedtelefonstikket på din enhed.




## Anvendelse af hovedtelefonerne sammen med din enhed

Bose® SoundTrue® Ultra in-ear hovedtelefonerne leveres med en lille indbygget mikrofon og en fjernbetjening med 3 knapper.

**Bemærk:** Mærket S på fjernbetjeningens bagside angiver, at disse hovedtelefoner er designet til anvendelse med Samsung Galaxy-enheder og udvalgte Android-enheder. Alle knapper vil muligvis ikke være tilgængelige for visse modeller eller applikationer. I brugervejledningen til din enhed kan du se, om fjernbetjening fungerer med din model.

## Hovedtelefonknapper





# Anvendelse af hovedtelefonerne

## Grundlæggende funktioner

Øg lydstyrken	Tryk på knappen +.
Reducer lydstyrken	Tryk på knappen –.
Besvar et opkald	Når du modtager et indgående opkald, skal du trykke på og slippe svar/afslut-knappen for at svare.
Afslut et opkald	Tryk på og slip svar/afslut-knappen.
Afvis et indgående opkald	Tryk på svar/afslut-knappen i ca. to sekunder, og slip den derefter.
Skift til et indgående eller parkeret opkald, og sæt det aktuelle opkald på hold	Når du er i gang med et opkald, skal du trykke på og slippe svar/afslut-knappen én gang. Tryk og slip igen for at skifte tilbage til det første opkald.
Skift til et indgående eller parkeret opkald, og afslut det aktuelle opkald	Mens du er i gang med et opkald, skal du trykke på svar/afslut-knappen i ca. to sekunder og derefter slippe den.
Anvendelse af stemmestyring	Tryk på svar/afslut-knappen, og hold den nede.  Se brugervejledningen til din enhed for at få flere oplysninger om stemmestyring.

## Medieafspilningsfunktioner

Afspilning og midlertidig afbrydelse af en sang eller en video	Tryk på og slip svar/afslut-knappen.
Gå frem	Tryk på og slip svar/afslut-knappen hurtigt to gange.
Gå tilbage	Tryk på og slip svar/afslut-knappen hurtigt tre gange.


# Anvendelse af hovedtelefonerne

## Vigtigheden af en god pasform

For at få en optimal lydoplevelse er det vigtigt at vælge den korrekte størrelse på StayHear® Ultra-øreindsatsen. Vælg den størrelse, der giver dig den bedste komfort og pasform i hvert øre. Du skal eventuelt prøve alle tre størrelser for at finde den, der passer bedst.

**Bemærk:** Du kan teste pasformen ved at prøve at tale. Din stemme skal lyde dæmpet i begge ører. Ellers skal du vælge en anden indsatsstørrelse.

Hver indsats er mærket med enten L eller R. Sørg for at sætte den venstre indsats (L) på det venstre ørestykke og den højre indsats (R) på det højre ørestykke.




## Tilpasning af hovedtelefonerne til øret

StayHear® øreindsatsen gør, at ørestykket hviler bekvemt i ørehulen. Siden af øreindsatsen passer lige under øreryggen.

### Sådan afgør du, om øreindsatsen har den rigtige størrelse:


1. Sæt hovedtelefonerne ind i øret, så indsatsen hviler forsigtigt i øregangens åbning.
2. Vip hovedtelefonerne tilbage, og tryk på øreindsatsen under øreryggen, indtil det er sikkert.

Øreindsatserne skal sidde bekvemt, men fast i ørehulen.



## Ændring af øreindsatser

1. Træk forsigtigt kanterne af den fastgjorte øreindsats væk fra ørestykket. Pas på ikke at ødelægge øreindsatsen.  
**Forsigtig:** Undgå at trække iStayHear® Ultra-øreindsatsen for at undgå skader.
2. Anbring den nye øreindsats åbning over stykket og den lille sprække over krogen.
3. Træk forsigtigt øreindsatsens base ned omkring ørestykkets base, indtil øreindsatsen føles fastgjort.



## Sådan tager du hovedtelefonerne af

Øreindsatsen kan danne en tæt forsegling inden i øret. Brug en langsom, drejende bevægelse til gradvist at bryde forseglingen, inden du tager hovedtelefonerne af.

# Anvendelse af hovedtelefonerne

---


## Justering for at sikre komfort og stabilitet

---

Du kan justere hovedtelefonerne på flere forskellige måder for at opnå yderligere komfort og stabilitet. Du kan tilpasse, hvordan du bærer hovedtelefonerne ved hjælp af justeringsskyderen og tøjclipsen.

### Sådan bruges tøjclipsen

Brug tøjclipsen til at fastgøre kablet til tøjet for at opnå komfort og stabilitet og for bedre at kunne håndtere kablet. Dette kan være nyttigt under aktiviteter med megen bevægelse eller når du bruger hovedtelefonerne i en konfiguration med en enkelt øreknop.



### Anvendelse af en enkelt øreknop

Bose® SoundTrue® Ultra in-ear hovedtelefoner kan kun bruges med den højre (R) øreknop i øret. På den måde kan du besvare opkald og stadig høre lyde fra omgivelserne.

## Fejlfinding

Hvis du har problemer med at benytte dine hovedtelefoner, så kig på følgende vejledninger.

Problem	Gør følgende
Ingen lyd/uregelmæssig lyd	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tilslut hovedtelefonkablet til 3,5 mm hovedtelefonstikket på din enhed.</li><li>• Prøv en øreindsats med en anden størrelse.</li><li>• Prøv en anden enhed.</li></ul>
For kraftig bas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Deaktiver eventuelle lydforbedringsfunktioner på lydkilden.</li></ul>
Mikrofonen registrerer ikke lyden	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sørg for, at du bruger en kompatibel enhed.</li><li>• Sæt hovedtelefonernes stik godt fast i hovedtelefonindgangen.</li><li>• Sørg for, at mikrofonåbningen på bagsiden af svar/afslut-knappen ikke er blokeret.</li><li>• Prøv et andet telefonopkald.</li><li>• Prøv en anden enhed.</li></ul>
Enhed reagerer ikke på tryk på fjernbetjening (knap)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tilslut hovedtelefonkablet til 3,5 mm hovedtelefonstikket på din enhed.</li><li>• For multi-trykfunktioner: Varier trykkes hastighed.</li></ul>
Enhed reagerer ikke på fjernbetjening	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alle knapper vil muligvis ikke være tilgængelige for visse enheder eller applikationer.</li></ul>
Øreindsatserne falder af	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sæt øreindsatserne godt fast i ørestykket og mundstykkekrøgen.</li></ul>
Mistet øreindsats	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontakt Bose for råd om reservedele.</li></ul>
Lyden fra øreknoppen er dæmpet	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sørg for, at der ikke er snavs eller voks på øreindsatserne og hovedtelefonernes mundstykker.</li><li>• Fjern hovedtelefonerne fra lydkilden, og tilslut dem derefter igen for at sikre, at de er tilsluttet solidt.</li><li>• Prøv en anden enhed.</li></ul>

# Wichtige Sicherheitshinweise

**Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.**



**WARNUNG:**

- Verwenden Sie die Kopfhörer **NICHT** längere Zeit bei hoher Lautstärke.
  - Um Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie die Kopfhörer bei angenehmer, mittlerer Lautstärke verwenden.
  - Schalten Sie die Lautstärke an Ihrem Gerät leiser, bevor Sie die Kopfhörer aufsetzen, und erhöhen Sie die Lautstärke dann nach und nach, bis ein angenehmes Niveau erreicht ist.
- Seien Sie **vorsichtig** und befolgen Sie die örtlichen Gesetze bezüglich der Verwendung von Mobiltelefonen und Kopfhörern, wenn Sie die Kopfhörer für Telefongespräche beim Autofahren verwenden. In einigen Ländern gelten bestimmte Einschränkungen, zum Beispiel die Verwendung von einem einzigen Ohrstück während des Fahrens. Verwenden Sie die Kopfhörer beim Autofahren **NICHT** für einen anderen Zweck.
- **Konzentrieren Sie sich** auf Ihre Sicherheit und die anderer, wenn Sie Kopfhörer verwenden und gleichzeitig eine Tätigkeit durchführen, die Ihre Aufmerksamkeit erfordert, z. B. beim Fahrradfahren oder Gehen in der Nähe von Verkehr, einer Baustelle oder Straße usw. Nehmen Sie die Kopfhörer ab oder passen Sie die Lautstärke an, um sicherzustellen, dass Sie Umgebungsgeräusche hören können, z. B. Alarmer und Warnsignale.
- Verwenden Sie Handyadapter **NICHT** zum Anschließen von Kopfhörern an Flugzeugsitzbuchsen, da dies zu Verletzungen, z. B. Verbrennungen, oder zu Sachschäden aufgrund von Überhitzung führen kann.
- **Nehmen Sie die Kopfhörer ab** und trennen Sie sie sofort, wenn Sie Wärme spüren oder nichts mehr hören.
- Tauchen Sie die Kopfhörer **NICHT** in Wasser und setzen Sie sie nicht längere Zeit dem Wasser aus und tragen Sie sie nicht bei Wassersportarten, z. B. Schwimmen, Wasserskifahren, Surfen usw.
- Lassen Sie die Kopfhörer oder Zubehör **NICHT** nass werden. Feuchtigkeit kann die Gefahr von Feuer oder Stromschlägen erhöhen.
- Stellen Sie **KEINE** offenen Flammen wie brennende Kerzen auf oder in die Nähe des Geräts.



**WARNUNG:** Enthält kleine Teile, die verschluckt werden können und eine Erstickungsgefahr darstellen. Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.



**WARNUNG:** Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie wissen möchten, ob dies den Betrieb Ihres implantierten medizinischen Geräts beeinflussen kann.



Dieses Produkt entspricht allen Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter [www.bose.com/compliance](http://www.bose.com/compliance)



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Namen und Inhalt der giftigen oder gefährlichen Stoffe oder Elemente						
Gefährliche Stoffe oder Elemente						
Name des Teils	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (CR(VI))	Polybromiertes Biphenyl (PBB)	Polybromiertes Diphenylether (PBDE)
PCBs	X	O	O	O	O	O
Metallteile	X	O	O	O	O	O
Kunststoffteile	O	O	O	O	O	O
Lautsprecher	X	O	O	O	O	O
Kabel	X	O	O	O	O	O
Diese Tabelle wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von SJ/T 11364 erstellt. O: Gibt an, dass dieser besagte gefährliche Stoff, der in allen homogenen Materialien für dieses Teil enthalten ist, unter den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt. X: Gibt an, dass dieser besagte gefährliche Stoff, der in mindestens einem der homogenen Materialien enthalten ist, die für dieses Teil verwendet wurden, über den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt.						

Über die Bose® SoundTrue® Ultra In-Ear-Kopfhörer .....	4
Merkmale .....	4
Auspacken.....	5
Anschließen an Ihr Gerät .....	6
Verwendung der Kopfhörer mit Ihrem Gerät .....	6
Kopfhörer-Bedienelemente.....	6
Basisfunktionen.....	7
Medienwiedergabefunktionen.....	7
Wichtig für den richtigen Sitz .....	8
Anpassen des Kopfhörers an Ihre Ohren .....	8
Austauschen der Polsterkappen .....	9
Entfernen der Kopfhörer .....	9
Anpassung für mehr Bequemlichkeit und Stabilität.....	10
Verwendung des Clips .....	10
Verwendung eines einzelnen Ohrhörers.....	10
Fehlerbehebung.....	11

Samsung Galaxy ist eine Marke von Samsung Electronics Co., Ltd.  
Android ist ein eingetragenes Warenzeichen von Google Inc.

**Bitte füllen Sie Folgendes aus und bewahren Sie es für Ihre Unterlagen auf:**

Die Serien- und Modellnummer finden Sie auf dem Original-Versandkarton und auf der Garantiekarte.

Seriennummer \_\_\_\_\_

Modellnummer \_\_\_\_\_

Kaufdatum \_\_\_\_\_

Bewahren Sie die Quittung zusammen mit dieser Bedienungsanleitung auf.

# Verwendung der Kopfhörer

---

## Über die Bose® SoundTrue® Ultra In-Ear-Kopfhörer

---

Die Bose® SoundTrue® Ultra In-Ear-Kopfhörer bieten eine Kombination aus naturgetreuer Klangqualität und Tragekomfort, die von den meisten herkömmlichen Kopfhörern nicht erreicht wird.


### Merkmale

- Musikgenuss mit Bose Spitzenklang, in den Sie voll eintauchen können.
- Exklusive TriPort®-Technologie bietet natürlich klingende Tiefen, auch bei höherer Lautstärke.
- Fernbedienung mit integriertem Mikrofon für einfaches Umschalten zwischen eingehenden Telefonaten und der Wiedergabe von Musik auf Samsung Galaxy-Geräten und ausgewählten Android-Geräten.
- StayHear®-Polsterkappen sorgen für sicheren Halt und bequemen Sitz der Kopfhörer.
- Entwickelt und getestet für langlebige Qualität und Haltbarkeit.
- Tragetasche zur Aufbewahrung und zum Schutz der Kopfhörer.
- Erhältlich in mehreren Farben, passend zu Ihrem Stil.



## Auspacken

Packen Sie den Karton vorsichtig aus und überprüfen Sie, ob die folgenden Teile enthalten sind:




**Hinweis:** Die Kopfhörer werden mit angebrachten mittleren (grauen) StayHear® Ultra-Polsterkappen geliefert.

# Verwendung der Kopfhörer

## Anschließen an Ihr Gerät

Schließen Sie die Kopfhörer an eine übliche 3,5-mm-Kopfhörerbuchse an Ihrem Gerät an.




## Verwendung der Kopfhörer mit Ihrem Gerät

Die Bose® SoundTrue® Ultra In-Ear-Kopfhörer werden mit einer Fernbedienung mit integriertem Mikrofon und 3 Tasten geliefert.

**Hinweis:** Das S auf der Rückseite der Fernbedienung weist darauf hin, dass diese Kopfhörer für die Verwendung mit Samsung Galaxy- und ausgewählten Android-Geräten gedacht sind. Möglicherweise stehen für einige Modelle oder Anwendungen nicht alle Bedienelemente zur Verfügung. Sehen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts nach, um zu erfahren, ob diese Fernbedienung mit Ihrem Modell funktioniert.

## Kopfhörer-Bedienelemente



# Verwendung der Kopfhörer

## Basisfunktionen

Lautstärke erhöhen	Drücken Sie kurz die Taste +.
Lautstärke verringern	Drücken Sie kurz die Taste –.
Anruf entgegennehmen	Wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten, drücken Sie die Answer/End-Taste und lassen Sie sie wieder los, um den Anruf entgegenzunehmen.
Anruf beenden	Halten Sie die Answer/End-Taste kurz gedrückt.
Ankommenden Anruf ablehnen	Halten Sie die Answer/End-Taste ungefähr zwei Sekunden lang gedrückt.
Zu einem ankommenden oder gehaltenen Anruf umschalten und den aktuellen Anruf auf Warten stellen	Drücken Sie während eines Anrufs die Answer/End-Taste kurz. Drücken Sie die Taste erneut, um wieder zum ersten Anruf umzuschalten.
Zu einem ankommenden oder gehaltenen Anruf umschalten und den aktuellen Anruf beenden	Halten Sie während eines Anrufs die Answer/End-Taste ungefähr zwei Sekunden lang gedrückt.
Sprachsteuerung verwenden	Halten Sie die Answer/End-Taste gedrückt. Weitere Informationen zur Sprachsteuerung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.

## Medienwiedergabefunktionen

Einen Song oder ein Video abspielen oder anhalten	Halten Sie die Answer/End-Taste kurz gedrückt.
Vorwärts springen	Drücken Sie die Answer/End-Taste kurz zweimal.
Rückwärts springen	Drücken Sie die Answer/End-Taste kurz dreimal.


# Verwendung der Kopfhörer

## Wichtig für den richtigen Sitz

Für optimale Audiowiedergabe ist es wichtig, StayHear® Ultra-Polsterkappen in der richtigen Größe auszuwählen. Wählen Sie die Größe die am besten und bequemsten in das Ohr passt. Sie müssen möglicherweise alle drei Größen probieren, um die Beste herauszufinden.

**Hinweis:** Um die Passform zu prüfen, versuchen Sie, laut zu sprechen. Ihre Stimme sollten in beiden Ohren gedämpft zu hören sein. Falls nicht, wählen Sie eine andere Polsterkappengröße.

Jede Polsterkappe ist entweder mit einem L oder einem R markiert. Achten Sie darauf, die linke Polsterkappe (L) am linken Ohrstück und die rechte Polsterkappe (R) am rechten Ohrstück anzubringen.




## Anpassen des Kopfhörers an Ihre Ohren

Dank der StayHear®-Polsterkappen sitzt das Ohrstück bequem in der Ohrmuschel. Der Flügelteil der Polsterkappe passt genau unter den Ohrrand.

### So stellen Sie fest, ob die Polsterkappe die richtige Größe hat:


1. Stecken Sie den Kopfhörer so in das Ohr, dass die Polsterkappe leicht auf der Öffnung des Gehörgangs sitzt.
2. Kippen Sie den Kopfhörer nach hinten und drücken Sie auf den Flügel der Polsterkappe unter dem Ohrrand, bis sie fest sitzt.

Die Polsterkappen sollten bequem und doch fest in der Ohrmuschel sitzen.



## Austauschen der Polsterkappen

1. Ziehen Sie die Kanten der befestigten Polsterkappe vorsichtig vom Ohrstück weg und achten Sie dabei darauf, die Polsterkappe nicht zu zerreißen.  
**Achtung:** Um Schäden zu verhindern, sollten Sie nicht am Flügel der StayHear® Ultra-Polsterkappe ziehen.
2. Positionieren Sie die Öffnung der neuen Polsterkappe über dem Kopfhörer und dem kleinen Schlitz über dem Kopfhörerhaken.
3. Lockern Sie die Basis der Polsterkappe unten um die Basis des Ohrstücks, bis die Polsterkappe fest sitzt.



## Entfernen der Kopfhörer

Die Polsterkappe kann das Ohr dicht verschließen. Verwenden Sie eine allmähliche Drehbewegung, um sie zu lösen, bevor Sie die Kopfhörer herausnehmen.

# Verwendung der Kopfhörer

---


## Anpassung für mehr Bequemlichkeit und Stabilität

---

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Kopfhörer so anzupassen, dass sie mehr Bequemlichkeit und Stabilität bieten. Mithilfe des Schiebers und des Clips können Sie einstellen, wie Sie die Kopfhörer tragen möchten.

### Verwendung des Clips

Verwenden Sie den Clip, um das Kabel an Ihrer Kleidung zu befestigen. Dies kann bei Aktivitäten mit viel Bewegung helfen, oder wenn Sie die Kopfhörer mit einem einzigen Ohrhörer verwenden.



### Verwendung eines einzelnen Ohrhörers

Es ist möglich, die Bose® SoundTrue® Ultra In-Ear Kopfhörer nur mit dem rechten (R) Ohrstück im Ohr zu verwenden. So können Sie Anrufe entgegennehmen und trotzdem die Umgebungsgeräusche hören.

## Fehlerbehebung

Probieren Sie die folgenden Lösungsvorschläge aus, wenn bei der Verwendung der Kopfhörer Probleme auftreten.

Problem	Lösung
Kein Ton/unterbrochener Ton	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schließen Sie das Kopfhörerkabel an die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse Ihres Geräts an.</li><li>• Versuchen Sie eine andere Polsterkappengröße.</li><li>• Versuchen Sie ein anderes Gerät.</li></ul>
Zuviel Bass	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schalten Sie alle Klangverbesserungsfunktionen der Audioquelle aus.</li></ul>
Das Mikrofon nimmt keinen Ton an	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vergewissern Sie sich, dass Sie ein kompatibles Gerät verwenden.</li><li>• Schließen Sie den Kopfhörerstecker fest an den Kopfhörereingang an.</li><li>• Vergewissern Sie sich, dass die Mikrofonöffnung an der Rückseite der Answer/End-Taste nicht blockiert ist.</li><li>• Versuchen Sie einen anderen Telefonanruf.</li><li>• Versuchen Sie ein anderes Gerät.</li></ul>
Gerät reagiert nicht auf Drücken der Fernbedienungstasten	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schließen Sie das Kopfhörerkabel an die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse Ihres Geräts an.</li><li>• Für Funktionen mit mehrmaligem Tastendruck: Variieren Sie die Geschwindigkeit.</li></ul>
Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Möglicherweise stehen für einige Geräte oder Anwendungen nicht alle Bedienelemente zur Verfügung.</li></ul>
Polsterkappen fallen ab	<ul style="list-style-type: none"><li>• Befestigen Sie die Polsterkappen fest am Ohrstück und an den Kopfhörerhaken.</li></ul>
Verlorene Polsterkappe	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wenden Sie sich an Bose, um Polsterkappen zum Austauschen zu erhalten.</li></ul>
Ton wird durch den Ohrhörer gedämpft	<ul style="list-style-type: none"><li>• Entfernen Sie eventuelle Fremdkörper oder Ohrschmalz von den Polsterkappen und Kopfhörern-Ohrhörer.</li><li>• Trennen Sie die Kopfhörer von der Tonquelle und schließen Sie sie wieder an. Achten Sie dabei darauf, dass sie korrekt angeschlossen sind.</li><li>• Versuchen Sie ein anderes Gerät.</li></ul>

# Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.



## WAARSCHUWINGEN:

- Gebruik de hoofdtelefoon **NIET** gedurende lange tijd bij een hoog volume.
  - Om gehoorschade te voorkomen, dient u de hoofdtelefoon op een comfortabel, matig volume te gebruiken.
  - Zet het volume lager op uw apparaat voordat u de hoofdtelefoon in uw oren plaatst en zet het volume vervolgens geleidelijk hoger totdat u een comfortabel luistervolume bereikt.
- Wees voorzichtig en neem de toepasselijke wetgeving met betrekking tot het gebruik van mobiele telefoons en hoofdtelefoons in acht als u de hoofdtelefoon gebruikt om te bellen terwijl u rijdt. In sommige rechtsgebieden gelden specifieke beperkingen voor het gebruik van dergelijke producten tijdens het autorijden, zoals het gebruik van één oorstuk. Gebruik de hoofdtelefoon **NIET** voor andere doeleinden terwijl u rijdt.
- Concentreer u op uw veiligheid en die van anderen als u de hoofdtelefoon gebruikt tijdens activiteiten die uw aandacht vereisen, zoals fietsen of wandelen in of bij verkeer, een bouwterrein of spoorweg enz. Zet de hoofdtelefoon af of pas het volume aan om te zorgen dat u omgevingsgeluiden, waaronder alarm- en waarschuwingssignalen, kunt horen.
- **Gebruik GEEN** adapters van mobiele telefoons om hoofdtelefoons aan te sluiten op aansluitingen in vliegtuigstoelen, aangezien dit kan leiden tot persoonlijk letsel, zoals brandwonden of schade aan eigendommen door oververhitting.
- Zet de hoofdtelefoon af en koppel deze onmiddellijk los als u warmte voelt of als het geluid wegvalt.
- **NIET** langdurig onderdompelen in of blootstellen aan water of dragen tijdens het beoefenen van watersport, zoals zwemmen, waterskiën, surfen, enz.
- Zorg dat de hoofdtelefoon of accessoires **NIET** nat worden. Blootstelling aan vocht kan leiden tot een hoger risico op brand of elektrische schokken.
- Plaats **GEEN** open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.



**WAARSCHUWING:** Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



**WAARSCHUWING:** Dit product bevat magnetisch materiaal. Neem contact op met uw arts als u vragen hebt over de invloed die dit kan hebben op de werking van uw implanteerbare medische hulpmiddel.



Dit product voldoet aan alle vereisten van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsdienst, of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

## Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen

Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen

Naam onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyl (PBB)	Polybroomdifenylether (PBDE)
PCB's	X	0	0	0	0	0
Metalen onderdelen	X	0	0	0	0	0
Plastic onderdelen	0	0	0	0	0	0
Luidsprekers	X	0	0	0	0	0
Kabels	X	0	0	0	0	0

Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364.

O: Geeft aan dat het gehalte aan de genoemde gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.

X: Geeft aan dat de genoemde gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.



©2015 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.



Over uw Bose® SoundTrue® Ultra in-ear hoofdtelefoon .....	4
Eigenschappen .....	4
Uitpakken .....	5
Op uw apparaat aansluiten .....	6
Gebruik van de hoofdtelefoon met uw apparaat .....	6
Knoppen op de hoofdtelefoon .....	6
Basisfuncties .....	7
Functies voor het afspelen van media .....	7
Een goede pasvorm is belangrijk .....	8
De hoofdtelefoon aan uw oor aanpassen .....	8
Oordopjes verwisselen .....	9
De hoofdtelefoon afzetten .....	9
Aanpassen voor comfort en stabiliteit .....	10
Gebruik van de kledingclip .....	10
Eén oorstuk gebruiken .....	10
Problemen oplossen .....	11

Samsung Galaxy is een handelsmerk van Samsung Electronics Co., Ltd.  
Android is een handelsmerk van Google Inc.

**Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie:**

Het serienummer en modelnummer vindt u op de oorspronkelijke verzenddoos en op de garantiekaart.

Serienummer \_\_\_\_\_

Modelnummer \_\_\_\_\_

Aankoopdatum \_\_\_\_\_

Wij adviseren om het aankoopbewijs bij deze gebruikershandleiding te bewaren.

## Gebruik van de hoofdtelefoon

---

# Over uw Bose® SoundTrue® Ultra in-ear hoofdtelefoon

---


De Bose® SoundTrue® Ultra in-ear hoofdtelefoon biedt een combinatie van levensecht geluid en een comfortabele pasvorm die de meeste conventionele hoofdtelefoons niet bieden.

### Eigenschappen

- Geniet van uw muziek met een diep, helder geluid waarin u zich helemaal kunt onderdompelen.
- De exclusieve TriPort®-technologie zorgt voor natuurlijk klinkende lage tonen, zelfs bij een hoog volume.
- Inline microfoon en afstandsbediening voor gemakkelijk schakelen tussen oproepen en muziek met Samsung Galaxy-apparaten en geselecteerde Android-apparaten.
- StayHear®-dopjes helpen uw hoofdtelefoon comfortabel op zijn plaats te houden.
- Ontworpen en getest voor blijvende kwaliteit en duurzaamheid.
- Het etui beschermt de hoofdtelefoon als u deze daarin opbergt.
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren om bij uw stijl te passen.

## Uitpakken

Pak de doos voorzichtig uit en controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:




**Opmerking:** De hoofdtelefoon wordt geleverd met medium (grijze) StayHear® Ultra-dopjes aangebracht.

# Gebruik van de hoofdtelefoon

## Op uw apparaat aansluiten

Sluit de hoofdtelefoon aan op de standaardhoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm op uw apparaat.




## Gebruik van de hoofdtelefoon met uw apparaat

De Bose® SoundTrue® Ultra in-ear hoofdtelefoon wordt geleverd met een inline microfoon en een afstandsbediening met 3 knoppen.

**Opmerking:** De S-markering aan de achterkant van de afstandsbediening geeft aan dat deze hoofdtelefoon ontworpen is voor gebruik met Samsung Galaxy-apparaten en geselecteerde Android-apparaten. Het is mogelijk dat niet alle functies beschikbaar zijn voor sommige modellen of toepassingen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw apparaat om te zien of afstandsbedieningen met uw model werken.

## Knoppen op de hoofdtelefoon



# Gebruik van de hoofdtelefoon

## Basisfuncties

Volume hoger	Druk kort op de knop +.
Volume lager	Druk kort op de knop -.
Een oproep beantwoorden	Als u een inkomende oproep ontvangt, druk dan kort op de knop Beantwoorden/Beëindigen om de oproep te beantwoorden.
Een oproep beëindigen	Druk kort op de knop Beantwoorden/Beëindigen
Een inkomende oproep weigeren	Houd de knop Beantwoorden/Beëindigen ongeveer twee seconden ingedrukt en laat deze vervolgens los.
Naar een inkomende oproep of een oproep in de wacht schakelen en de huidige oproep in de wacht plaatsen	Tijdens een oproep drukt u eenmaal kort op de knop Beantwoorden/Beëindigen. Druk nogmaals kort op de knop om terug te schakelen naar de eerste oproep.
Naar een inkomende oproep of een oproep in de wacht schakelen en de huidige oproep beëindigen	Tijdens een oproep houdt u de knop Beantwoorden/Beëindigen ongeveer twee seconden ingedrukt en laat u deze vervolgens los.
Spraakbediening gebruiken	Houd de knop Beantwoorden/Beëindigen ingedrukt. Voor meer informatie over spraakbediening raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw apparaat.

## Functies voor het afspelen van media

Een song of video afspelen of pauzeren	Druk kort op de knop Beantwoorden/Beëindigen
Vooruit skippen	Druk tweemaal snel achter elkaar op de knop Beantwoorden/Beëindigen.
Achteruit skippen	Druk driemaal snel achter elkaar op de knop Beantwoorden/Beëindigen.


# Gebruik van de hoofdtelefoon

## Een goede pasvorm is belangrijk

Voor optimale audioprestaties is het belangrijk de juiste maat StayHear® Ultra-dopje te kiezen. Selecteer de maat die het meest comfortabel in elk oor past. Het kan nodig zijn alle drie de maten te proberen om te bepalen welke het best past.

**Opmerking:** Om te testen of de dopjes passen, spreekt u hardop. Uw stem hoort in beide oren gedempt te klinken. Als dat niet zo is, selecteer dan een andere maat.

Elk dopje is gemarkeerd met een L of een R. Zorg dat u het linkerdopje (L) aan het linkeroorstuk bevestigt en het rechterdopje (R) aan het rechteroorstuk.




## De hoofdtelefoon aan uw oor aanpassen

Dankzij het StayHear®-dopje past het oorstuk comfortabel in uw oorschelp. De vleugel van het dopje past precies onder de oorplooi.

### Bepalen of het dopje de juiste maat is:


1. Plaats de hoofdtelefoon zo in uw oor dat het dopje zachtjes tegen de opening van de gehoorgang rust.
2. Kantel de hoofdtelefoon naar achteren en druk de vleugel van het dopje onder de oorplooi totdat het goed vastzit.

De dopjes moeten comfortabel maar toch stevig in de oorschelp passen.



## Oordopjes verwisselen

1. Verwijder voorzichtig de randen van het bevestigde dopje van het oorstuk. Wees voorzichtig dat u het dopje niet scheurt.  
**Let op:** Om beschadiging te voorkomen, mag u niet aan de vleugel van het Stayhear® Ultra-dopje trekken.
2. Plaats de opening van het nieuwe dopje over het oorstuk en de kleine gleuf over het haakje van het oorstuk.
3. Druk de onderkant van het dopje voorzichtig rond de onderkant van het oorstuk totdat u voelt dat het dopje vastzit.



## De hoofdtelefoon afzetten

Het oordopje kan in het oor vastgeklemd zitten. Gebruik een langzame, draaiende beweging om het dopje geleidelijk los te maken voordat u de hoofdtelefoon afzet.

# Gebruik van de hoofdtelefoon

---


## Aanpassen voor comfort en stabiliteit

---

Er zijn verschillende manieren waarop u de hoofdtelefoon kunt aanpassen zodat deze prettiger zit en beter op zijn plaats blijft. Met het snoerschuijfe en de kledingclip kunt u aanpassen hoe u de hoofdtelefoon draagt.

### Gebruik van de kledingclip

Met de kledingclip kunt u het snoer voor het gemak aan uw kleding bevestigen zodat deze goed vastzit en u geen last hebt van een loshangend snoer. Dit kan handig zijn bij activiteiten waarbij u veel beweegt of als u de hoofdtelefoon gebruikt met één oorstuk.



### Eén oorstuk gebruiken

De Bose® SoundTrue® Ultra in-ear hoofdtelefoon kan worden gebruikt met alleen het rechteroorstuk (R) in uw oor. Op deze manier kunt u telefoneren en toch omgevingsgeluiden horen.



## Problemen oplossen

Als u problemen hebt met het gebruik van de hoofdtelefoon, probeer dan het probleem te verhelpen aan de hand van de volgende instructies.

Probleem	Wat te doen
Geen geluid/geluid valt soms weg	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sluit de kabel van de hoofdtelefoon stevig aan op de hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm op uw apparaat.</li><li>• Probeer een andere maat oordopje.</li><li>• Probeer een ander apparaat.</li></ul>
Te veel lage tonen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schakel alle functies voor het verbeteren van het geluid op de audiobron uit.</li></ul>
De microfoon registreert geen geluid	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of u een compatibel apparaat gebruikt.</li><li>• Sluit de stekker van de hoofdtelefoon stevig aan op de hoofdtelefooningang.</li><li>• Controleer of de opening van de microfoon aan de achterkant van de knop Beantwoorden/Beëindigen niet geblokkeerd is.</li><li>• Probeer het met een ander telefoongesprek.</li><li>• Probeer een ander apparaat.</li></ul>
Het apparaat reageert niet wanneer u op knoppen op de afstandsbediening drukt	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sluit de kabel van de hoofdtelefoon stevig aan op de hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm op uw apparaat.</li><li>• Voor functies waarbij u meerdere keren op een knop moet drukken: Varieer de tijd tussen het indrukken.</li></ul>
Het apparaat reageert niet op de afstandsbediening	<ul style="list-style-type: none"><li>• Het is mogelijk dat niet alle functies beschikbaar zijn voor sommige apparaten of toepassingen.</li></ul>
De oordopjes vallen eraf	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bevestig de oordopjes stevig aan het oorstuk en het haakje van het oorstuk.</li></ul>
Oordopje verloren	<ul style="list-style-type: none"><li>• Neem contact op met Bose voor reservedopjes.</li></ul>
Gedempt geluid uit oorstuk	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verwijder vuil of oorsmeer uit de oordopjes en oorstukken van de hoofdtelefoon.</li><li>• Koppel de hoofdtelefoon los van de audiobron en sluit deze vervolgens weer aan en controleer of deze goed is aangesloten.</li><li>• Probeer een ander apparaat.</li></ul>

# Instrucciones importantes de seguridad

Lea atentamente esta guía del propietario y consérvela para consultarla en el futuro.



## ADVERTENCIAS:

- **NO** use los auriculares a un volumen alto por un período prolongado.
  - Para evitar daños a la audición, use los auriculares a un nivel de volumen cómodo y moderado.
  - Baje el volumen del dispositivo antes de colocar los auriculares en las orejas, suba gradualmente el volumen hasta alcanzar un nivel de audición cómodo.
- **Tenga** precaución y acate las leyes correspondientes en cuanto al uso de teléfonos móviles y auriculares si usa auriculares para realizar llamadas mientras conduce. Algunas jurisdicciones imponen limitaciones específicas, como una configuración de un único auricular, sobre el uso de tales productos mientras se conduce. **NO** use los auriculares para otro fin mientras conduce.
- **CONCÉNTRESE** en su seguridad y en la de los demás si usa los auriculares mientras realiza una actividad que requiera su atención, por ejemplo mientras anda en bicicleta o camina en o cerca de tránsito, un sitio de construcción o las vías del ferrocarril, etc. Qúitese los auriculares o ajuste el volumen para asegurarse de que puede oír los ruidos del entorno, incluyendo alarmas y señales de advertencia.
- **NO** use adaptadores de teléfonos móviles para conectar los auriculares a los enchufes de los asientos de aviones, ya que podría producir lesiones personales como quemaduras o daños a la propiedad debido a sobrecalentamiento.
- **QUÍTESE** los auriculares y desconecte de inmediato si siente una sensación de calor o pérdida de audición.
- **NO** sumerja o exponga al agua por períodos prolongados, ni use mientras practica deportes acuáticos, es decir, natación, esquí acuático, surf, etc.
- **NO** permita que los auriculares o los accesorios se mojen. La exposición a la humedad puede aumentar el riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- **NO** coloque fuentes con llamas al descubierto, como velas encendidas, sobre o cerca del producto.



**ADVERTENCIA:** Contiene piezas pequeñas que pueden representar un riesgo de asfixia. No es indicado para niños de menos de tres años de edad.




**ADVERTENCIA:** Este producto contiene material magnético. Póngase en contacto con su médico si tiene preguntas acerca de si esto podría afectar el funcionamiento de un dispositivo médico implantable.



Este producto cumple con todos los requisitos de la directiva de la UE vigente. Puede encontrar la declaración completa de conformidad en [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y que debe entregarse a un centro de recolección apropiado para reciclaje. La eliminación y el reciclado adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud de las personas y el medioambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio de gestión de residuos o el comercio donde compró este producto.

Nombres y contenidos de las sustancias o elementos tóxicos o peligrosos						
Sustancias y elementos tóxicos o peligrosos						
Nombre de parte	Plomo (pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Hexavalente	Bifenilo polibromado (PBB)	Difeniléter polibromado (PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
Partes metálicas	X	O	O	O	O	O
Partes plásticas	O	O	O	O	O	O
Altavoces	X	O	O	O	O	O
Cables	X	O	O	O	O	O
Esta tabla está preparada conforme a las cláusulas de SJ/T 11364. O: Indica que dicha sustancia peligrosa que está presente en todos los materiales homogéneos para esta parte es inferior al requisito de límite en GB/T 26572. X: Indica que dicha sustancia peligrosa que está presente en al menos uno de los materiales homogéneos utilizados para esta parte se encuentra por encima del requisito de límite en GB/T 26572.						

©2015 Bose Corporation. No se puede reproducir, modificar, distribuir, o usar de otra manera ninguna parte de este trabajo sin previo consentimiento por escrito.

Acerca de los auriculares internos Bose® SoundTrue® Ultra.....	4
Características .....	4
Desembalar.....	5
Conexión a su dispositivo .....	6
Uso de los auriculares con su dispositivo .....	6
Controles de los auriculares.....	6
Funciones básicas .....	7
Funciones de reproducción de medios.....	7
Importancia de un ajuste adecuado .....	8
Ajuste de los auriculares a su oreja .....	8
Cambio de las almohadillas.....	9
Quitar los auriculares.....	9
Ajuste de comodidad y estabilidad.....	10
Uso del clip para la ropa .....	10
Uso de un solo audífono.....	10
Solución de problemas.....	11

Samsung Galaxy es una marca comercial de Samsung Electronics Co., Ltd.  
Android es una marca comercial de Google Inc.

## **Complete y conserve para su registro:**

El número de serie y el número de modelo se pueden encontrar en la caja de envío original y en la tarjeta de la garantía.

Número de serie \_\_\_\_\_

Número de modelo \_\_\_\_\_

Fecha de compra \_\_\_\_\_

Le sugerimos que guarde el recibo con esta guía del usuario

# Uso de los auriculares

---

## Acerca de los auriculares internos Bose® SoundTrue® Ultra

---


Los auriculares internos Bose® SoundTrue® Ultra ofrecen una combinación de rendimiento de audio muy real y un ajuste cómodo, características que no se encuentran en la mayoría de los auriculares convencionales.

### Características

- Disfrute de la música con un sonido amplio y nítido y total inmersión.
- La exclusiva tecnología TriPort® ofrece graves de sonido natural, incluso en los niveles más altos de volumen.
- Micrófono en línea y control remoto para cambiar fácilmente entre llamadas y música, con los dispositivos Samsung Galaxy y algunos dispositivos de Android.
- Las almohadillas StayHear® mantienen a los auriculares cómodamente en su lugar.
- Diseñados y probados para ofrecer calidad perdurable y durabilidad.
- Estuche para guardar y proteger los auriculares.
- Disponibles en diferentes colores que se adaptan a su estilo.

## Desembalar

Desembale cuidadosamente la caja y confirme que estén incluidas las siguientes partes:



**Nota:** Los auriculares vienen con almohadillas StayHear® de tamaño mediano (grises) incorporadas.


## Uso de los auriculares

---

### Conexión a su dispositivo

---

Conecte los auriculares al conector para auriculares estándar de 3,5 mm en su dispositivo.




### Uso de los auriculares con su dispositivo

---

Los auriculares internos Bose® SoundTrue® Ultra vienen con un micrófono en línea y un control remoto de tres botones.

**Nota:** La marca S en la parte posterior del control remoto indica que estos auriculares están diseñados para usar con dispositivos Samsung Galaxy y algunos dispositivos Android. Es posible que no haya controles completos para algunos modelos o aplicaciones. Consulte la guía del usuario del dispositivo para ver si los controles remotos funcionan con su modelo.

### Controles de los auriculares



## Funciones básicas

Subir el volumen	Presione y suelte el botón +.
Bajar el volumen	Presione y suelte el botón –.
Responder una llamada	Cuando reciba una llamada entrante, presione y suelte el botón Responder/ Colgar para atender.
Finalizar una llamada	Presione y suelte el botón Responder/Colgar.
Rechazar una llamada entrante	Mantenga presionado el botón Responder/ Colgar durante aproximadamente dos segundos y luego, suéltelo.
Pasar a una llamada entrante o a una llamada en espera y poner la llamada en curso en espera.	Durante una llamada, presione y suelte el botón Responder/Colgar una vez. Vuelva a presionar y soltar para volver a la primera llamada.
Pasar a una llamada entrante o a una llamada en espera y finalizar la llamada en curso.	Durante una llamada, mantenga presionado el botón Responder/Colgar durante aproximadamente dos segundos y luego, suéltelo.
Uso del control de voz	Mantenga presionado el botón Responder/Colgar.  Para obtener más información sobre el control de voz, consulte la guía del usuario del dispositivo.

## Funciones de reproducción de medios

Reproducir o poner en pausa una canción o video	Presione y suelte el botón Responder/Colgar.
Salto adelante	Presione y suelte el botón Responder/ Colgar dos veces rápidamente.
Salto atrás	Presione y suelte el botón Responder/ Colgar tres veces rápidamente.


# Uso de los auriculares

## Importancia de un ajuste adecuado

Para un desempeño de audio óptimo, es importante elegir el tamaño de almohadilla StayHear® Ultra correcto. Seleccione el tamaño que le brinde la mejor comodidad y ajuste en cada oreja. Es posible que necesite probar con los tres tamaños para determinar el mejor ajuste.

**Nota:** Para probarlos, intente hablar en voz alta. Su voz deberá sonar amortiguada en ambos oídos. Si no es el caso, seleccione otro tamaño de almohadilla.

Cada almohadilla está marcada con una L o R. Asegúrese de colocar la almohadilla izquierda (L) al audífono izquierdo y la almohadilla derecha (R) al audífono derecho.




## Ajuste de los auriculares a su oreja

La almohadilla StayHear® permite que el audífono se ajuste cómodamente al hueco de la oreja. La parte del ala de la almohadilla se ajusta debajo del borde de la oreja.

### Para determinar si la almohadilla es del tamaño correcto:

1. Inserte el auricular en la oreja de manera que la almohadilla se coloque suavemente en la abertura del canal auditivo.
2. Inclíne el auricular hacia atrás y presione el ala de la almohadilla por debajo del borde de la oreja hasta que esté seguro.


Las almohadillas deben ajustarse cómodamente, pero de forma segura, al hueco de la oreja.





## Cambio de las almohadillas

1. Despegue suavemente los bordes de la almohadilla adjunta hacia afuera del audífono, evitando dañar la almohadilla.  
**PRECAUCIÓN:** Para evitar que se dañe, no tire del ala de la almohadilla StayHear® Ultra.
2. Coloque la abertura de la almohadilla nueva sobre la boquilla y la ranura pequeña sobre el gancho de la boquilla.
3. Inserte la base de la almohadilla hacia abajo alrededor de la base del audífono hasta que esté segura.



## Quitar los auriculares

Es posible que la almohadilla produzca un cierre hermético en la oreja. Para quitarlos, gire suavemente los auriculares para romper el cierre hermético.

## Uso de los auriculares

---


### Ajuste de comodidad y estabilidad

---

Existen varias maneras de ajustar los auriculares para que proporcionen más comodidad y estabilidad. Puede personalizar la forma en que usa los auriculares con el ajuste deslizante y el clip para la ropa.

#### Uso del clip para la ropa

Use el clip para la ropa para sujetar el cable a la ropa para una mayor comodidad, estabilidad y para una mejor posición del cable. Esto puede resultar útil durante actividades de movimientos bruscos o al utilizar los auriculares con un solo audífono.



#### Uso de un solo audífono

Los auriculares Bose® SoundTrue® Ultra se pueden usar solo con el audífono derecho (R) en la oreja. Esto le permite atender llamadas y oír los sonidos circundantes.

## Solución de problemas

Si experimenta algún problema con el uso de los auriculares, pruebe las siguientes instrucciones de solución de problemas.

Problema	Qué hacer
No hay audio o es intermitente	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conecte el cable del auricular al conector para auriculares de 3,5 mm de su dispositivo.</li><li>• Pruebe con otro tamaño de almohadilla.</li><li>• Pruebe con otro dispositivo.</li></ul>
Bajos excesivos	<ul style="list-style-type: none"><li>• Apague todas las funciones de mejora de audio de la fuente de audio.</li></ul>
El micrófono no capta sonido	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asegúrese de que esté usando un dispositivo compatible.</li><li>• Conecte firmemente el enchufe de los auriculares a la entrada de auriculares.</li><li>• Asegúrese de que la abertura del micrófono en la parte posterior del botón Responder/ Colgar no esté bloqueado.</li><li>• Pruebe con otra llamada telefónica.</li><li>• Pruebe con otro dispositivo.</li></ul>
El dispositivo no responde al presionar los botones del control remoto	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conecte el cable del auricular al conector para auriculares de 3,5 mm de su dispositivo.</li><li>• Para funciones de multipulsación: Varíe la velocidad de las pulsaciones.</li></ul>
El dispositivo no responde al control remoto	<ul style="list-style-type: none"><li>• Es posible que no haya controles completos para algunos dispositivos o aplicaciones.</li></ul>
Las almohadillas de los auriculares se caen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Coloque firmemente las almohadillas en el auricular y el gancho de la boquilla.</li></ul>
Perdió la almohadilla del auricular	<ul style="list-style-type: none"><li>• Póngase en contacto con Bose para obtener almohadillas de repuesto.</li></ul>
El sonido de los auriculares es tenue	<ul style="list-style-type: none"><li>• Limpie cualquier residuo o la acumulación de cera de las almohadillas y las boquillas de los auriculares.</li><li>• Desenchufe los auriculares de la fuente de audio, luego vuelva a enchufarlos asegurándose de que estén correctamente conectados.</li><li>• Pruebe con otro dispositivo.</li></ul>

# Tärkeitä turvallisuustietoja

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.



## VAROITUKSIA:

- **ÄLÄ** käytä kuulokkeita pitkään suurella äänenvoimakkuudella.
  - Säädä äänenvoimakkuus mukavaksi ja kohtuulliseksi, jotta vältät kuulovaurion.
  - Säädä äänenvoimakkuus pieneksi ennen kuin asetat kuulokkeet korville. Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes löydät mukavan kuunteluvoimakkuuden.
- **TOIMI** varovaisesti. Noudata lakeja, jotka koskevat matkpuhelimien ja kuulokkeiden käyttöä autolla ajettaessa. Tietyissä maissa on käytössä rajoituksia, jotka edellyttävät esimerkiksi vain yhden kuulokkeen käyttämistä autoa ajettaessa. **ÄLÄ** käytä kuulokkeita mihinkään muihin tarkoituksiin autolla ajon aikana.
- **KESKITY** omaan turvallisuuteesi ja muiden turvallisuuteen, jos käytät kuulokkeita esimerkiksi pyöräillessäsi tai kävellessäsi liikenteessä tai esimerkiksi rakennustyömaan tai rautatien lähellä. Ota tällöin kuulokkeet pois korviltasi tai säädä äänenvoimakkuus riittävän hiljaiseksi, jotta kuulet taustaaänet, kuten hälytykset ja varoitukset.
- **ÄLÄ** yhdistä kuulokkeita lentokoneen istuimen matkpuhelinlatausliitäntään. Ylikuumentuminen voi muutoin aiheuttaa palovamman tai muun henkilövahingon tai vaurioittaa kuulokkeita.
- **IRROTA** liitin heti liittämisestä, jos tunnet kuulokkeiden lämpiävän tai ääntä ei kuulu.
- **ÄLÄ** upota kuulokkeita veteen pitkäksi ajaksi äläkä käytä niitä vesiuheilussa, esimerkiksi uidesasi, vesihiihtäessäsi tai lainelautaillessasi.
- **ÄLÄ** anna kuulokkeiden tai varusteiden kastua. Kosteudelle altistuminen voi lisätä tulipalon tai sähköiskun vaaraa.
- **ÄLÄ** laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.



**VAARA:** Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovello alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.



**VAARA:** Tämä laite sisältää magneetin. Jos mielessäsi on kysymyksiä vaikutuksesta lääketieteelliseen implantaattiin, ota yhteys lääkäriin.



Tämä tuote täyttää kaikkien sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet						
Osan nimi	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyylidi (PBB)	Polybrominoitu difenyyleetteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	O	O	O	O	O
Metalliosat	X	O	O	O	O	O
Muoviosat	O	O	O	O	O	O
Kaiuttimet	X	O	O	O	O	O
Johdot	X	O	O	O	O	O

Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.

O: Ilmaisee, että tätä vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.

X: Ilmaisee, että tätä vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa yli GB/T 26572 -raja-arvon.

Tietoja Bose® SoundTrue® Ultra in-ear -kuulokkeista .....	4
Ominaisuudet .....	4
Purkaminen pakkauksesta .....	5
Yhdistäminen laitteeseen.....	6
Kuulokkeiden käyttäminen yhdessä laitteen kanssa.....	6
Kuulokkeiden säätimet .....	6
Perustoiminnot.....	7
Mediatoistotoiminnot .....	7
Oikean sopivuuden merkitys.....	8
Kuulokkeiden asettaminen korville.....	8
Korvakärkien vaihtaminen .....	9
Kuulokkeiden poistaminen .....	9
Kuulokkeiden säätäminen mukaviksi ja hyvin paikallaan pysyviksi .....	10
Vaatekiinnikkeen käyttäminen.....	10
Vain yhden korvakuulokkeen käyttäminen.....	10
Ongelmanratkaisu.....	11

Samsung Galaxy on Samsung Electronics Co., Ltd:n tavaramerkki.  
Android on Google Inc:n tavaramerkki.

## Säilytä tiedot.

Sarja- ja mallinumero näkyvät alkuperäisessä pakkauksessa ja takuukortissa.

Sarjanumero \_\_\_\_\_

Mallinumero \_\_\_\_\_

Ostopäivä \_\_\_\_\_

On suositeltavaa säilyttää ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä.

# Kuulokkeiden käyttö

---

## Tietoja Bose® SoundTrue® Ultra in-ear -kuulokkeista

---


Bose® SoundTrue® Ultra in-ear -kuulokkeet tuottavat todentuntuista ääntä ja istuvat mukavasti useimmista perinteisistä kuulokkeista poiketen.

### Ominaisuudet

- Heittäydy nauttimaan musiikista ja syvistä, kirkkaista äänistä.
- Ainutlaatuinen TriPort®-tekniikka saa matalat äänet kuulumaan luonnollisina myös suurella äänenvoimakkuudella.
- Johdossa olevan mikrofonin ja kaukosäätimen avulla voi helposti vaihtaa musiikin ja puheluiden välillä (Samsung Galaxy -laitteet ja tietyt Android-laitteet).
- StayHear®-kärjet pitävät kuulokkeet mukavasti paikoillaan.
- Suunnitellusti ja testatusti pitkäkestoinen ja kestävä.
- Kuulokkeita voi säilyttää kätevässä kotelossa, joka myös suojaa niitä.
- Värivalikoimasta löytyy omaan tyyliisi sopiva väri.

## Purkaminen pakkauksesta

Avaa pakkaus varovasti. Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:




**Huomautus:** Kuulokkeisiin on kiinnitetty valmiiksi keskikokoiset (harmaat) StayHear® Ultra -kärjet.

# Kuulokkeiden käyttö

## Yhdistäminen laitteeseen

Yhdistä kuulokkeet laitteen tavalliseen 3,5 mm:n kuulokeliitäntään.




## Kuulokkeiden käyttäminen yhdessä laitteen kanssa

Bose® SoundTrue® Ultra in-ear -kuulokkeissa on johtoon kiinnitetty mikrofoni ja 3-painikkeinen kaukosäädin.

**Huomautus:** Kaukosäätimen kääntöpuolella näkyvä S-merkki osoittaa, että nämä kuulokkeet on suunniteltu käytettäväksi yhdessä Samsung Galaxy -laitteiden ja tiettyjen Android-laitteiden kanssa. Kaikkien laitemallien tai sovellusten kaikkia toimintoja ei ehkä voi ohjata. Katso laitteen käyttöohjeesta, voiko sitä ohjata kaukosäätimellä.

## Kuulokkeiden säätimet





## Perustoiminnot

Äänenvoimakkuuden lisääminen	Paina +-painiketta ja vapauta se.
Äänenvoimakkuuden vähentäminen	Paina – -painiketta ja vapauta se.
Puheluun vastaaminen	Kun puhelu saapuu, voit vastata siihen painamalla vastaus-/lopetuspainiketta ja vapauttamalla sen.
Puhelun lopettaminen	Paina vastaus-/lopetuspainiketta ja vapauta se.
Saapuvan puhelun hylkääminen	Pidä vastaus-/lopetuspainiketta painettuna noin kaksi sekuntia ja vapauta se.
Vuorottelemisen kahden puhelun välillä tai puhelun asettaminen pitoon	Kun puhelu on meneillään, paina vastaus-/lopetuspainiketta kerran. Voit ottaa ensimmäisen puhelun käyttöön painamalla ja vapauttamalla uudelleen.
Vuorottelemisen kahden puhelun välillä ja meneillään olevan puhelun lopettaminen	Kun puhelu on meneillään, pidä vastaus-/lopetuspainiketta painettuna noin kaksi sekuntia ja vapauta se.
Äänikomentojen käyttäminen	Pidä vastaus-/lopetuspainiketta painettuna. Äänitoimintojen käyttämisestä on lisätietoja laitteen käyttöohjeessa.

## Mediatoistotoiminnot

Musiikin tai videoleikkeen toistaminen tai asettaminen taukotilaan	Paina vastaus-/lopetuspainiketta ja vapauta se.
Siirtyminen eteenpäin	Paina vastaus-/lopetuspainiketta nopeasti kaksi kertaa.
Siirtyminen taaksepäin	Paina vastaus-/lopetuspainiketta nopeasti kolme kertaa ja vapauta se.


# Kuulokkeiden käyttö

## Oikean sopivuuden merkitys

Oikeankokoisen StayHear® Ultra -kärjen valinta on tärkeää ihanteellisen kuuntelukokemuksen kannalta. Valitse parhaiten sopiva ja mukavin koko. Parhaan sopivuuden löytämiseksi on ehkä kokeiltava kaikkia kolmea kokovaihtoehtoa.

**Huomautus:** Kokeile sopivuutta puhumalla ääneen. Äänesi tulee kuulua vaimeana molemmissa korvissa. Jos näin ei käy, valitse toinen kärjen koko.

Kärjissä on L- ja R-merkintä. Kiinnitä vasen (L-merkitty) vasempaan korvaosaan ja oikea (R-merkitty) oikeanpuoleiseen korvaosaan.




## Kuulokkeiden asettaminen korville

StayHear®-kärki saa korvaosat istumaan korvissa mukavasti. Kärjen siipiosa sopii korvan kohouman alle.

### Kärjen oikean koon määrittäminen:


1. Aseta kuulokkeet korviin siten, että kärki koskettaa korvakanavan aukkoa.
2. Kallista kuuloketta taaksepäin ja paina kärjen siipiosaa korvan kohouman alle, jotta se on varmasti paikallaan.

Kärkien on oltava mukavasti ja tiukasti korvan syvänteessä.



## Korvakärkien vaihtaminen

1. Irrota kärjen reunat varovaisesti korvakappaleesta. Varo, ettei kärki repeydy.  
**Huomio:** Älä vedä StayHear® Ultra -siipiosan kärkeä, jotta se ei vaurioidu.
2. Aseta uuden kärjen aukko nokkamaisen osan päälle. Aseta pieni aukko nokkamaisen osan kärjen päälle.
3. Säädä kärjen tyveä korvakappaleen ympärillä, kunnes kärki on tukevasti paikallaan.



## Kuulokkeiden poistaminen

Korvakärki saattaa asettua korvaan ilmatiiviisti. Käännä kärkeä hitaasti korvassa alipaineen purkamiseksi ennen kuulokkeen poistamista.

## Kuulokkeiden käyttö

---


### Kuulokkeiden säätäminen mukaviksi ja hyvin paikallaan pysyviksi

---

Voit säätää kuulokkeita useilla eri tavoilla, jotta ne pysyvät paikallaan mukavasti. Voit mukauttaa kuulokkeiden käyttötapaa liukuvan säätimen ja vaatekiinnikkeen avulla.

#### Vaatekiinnikkeen käyttäminen

Voit kiinnittää johdon vaatteisiisi vaatekiinnikkeellä. Tämä lisää mukavuutta ja vakautta sekä auttaa hallitsemaan johtoa. Tästä voi olla hyötyä liikunnan aikana tai jos käytät vain toista korvakuuloketta.



#### Vain yhden korvakuulokkeen käyttäminen

Bose® SoundTrue® Ultra in-ear -kuulokkeista voi käyttää myös pelkästään oikeanpuoleista (R) korvakuuloketta. Voit tällöin puhua puhelimesta ja kuulla samalla, mitä ympärillä tapahtuu.

## Ongelmanratkaisu

Jos kuulokkeiden käytössä esiintyy ongelmia, kokeile seuraavia ratkaisuja.

Ongelma	Toimintaohjeet
Ääntä ei kuulu tai ääni katkeilee.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Yhdistä kuulokejohto tukevasti laitteen 3,5 mm:n kuulokeliitántään.</li><li>• Kokeile toisen kokoista kärkeä.</li><li>• Kokeile toista laitetta.</li></ul>
Liian voimakas bassotoisto.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Poista käytöstä äänilähteen äänenkorjaustoiminnot.</li></ul>
Mikrofoni ei reagoi ääneen.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Varmista, että käytät yhteensopivaa laitetta.</li><li>• Yhdistä kuulokejohdon liitin kuulokeliitántään tiukasti.</li><li>• Varmista, että mikrofonia ei ole peitetty. Mikrofoni sijaitsee vastaus-/lopetuspainikkeen takana.</li><li>• Koeta soittaa toiseen puhelinnumeroon.</li><li>• Kokeile toista äänilaitetta.</li></ul>
Laite ei vastaa kaukosäätimen painikkeiden painamiseen.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Yhdistä kuulokejohto tukevasti laitteen 3,5 mm:n kuulokeliitántään.</li><li>• Moneen painalluksen toiminnot: vaihtele painamisnopeutta.</li></ul>
Laite ei vastaa kaukosäätimen painikkeiden painamiseen.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kaikkien laitteiden tai sovellusten kaikkia toimintoja ei ehkä voi ohjata.</li></ul>
Korvakärjet irtoavat.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kiinnitä silikonikärjet kunnolla kuulokkeisiin ja nokkamaiseen osaan.</li></ul>
Korvakärki katoaa.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tilaa uudet kärjet Boselta.</li></ul>
Ääni kuuluu korvakuulokkeesta tukkoisesti.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Poista mahdollinen lika ja korvavaha silikonikärjistä ja kuulokkeiden nokkamaisista osista.</li><li>• Irrota kuulokkeet äänilähteestä ja yhdistä ne siihen uudelleen tiukasti.</li><li>• Kokeile toista laitetta.</li></ul>

# Informations importantes relatives à la sécurité

Lisez attentivement cette notice d'utilisation et conservez-la pour toute référence future.



## AVERTISSEMENTS :

- **Veillez à NE PAS** utiliser votre casque à un volume élevé pendant une période prolongée.
  - Pour éviter des dommages auditifs, utilisez le casque à un volume confortable, mais modéré.
  - Baissez le volume de l'appareil avant de placer le casque sur les oreilles, puis augmentez le volume progressivement jusqu'à ce que le niveau d'écoute vous convienne.
- **Soyez vigilant** et respectez la réglementation en vigueur concernant l'utilisation de casques et écouteurs avec des téléphones portables si vous utilisez les écouteurs pour passer ou recevoir des appels pendant que vous conduisez. Certaines juridictions imposent des limites spécifiques d'utilisation tout en conduisant, par exemple le port d'un seul écouteur. Veillez à **NE PAS** utiliser les écouteurs à d'autres fins lorsque vous conduisez.
- **Restez vigilant**, pensez à votre sécurité et à celle des autres lorsque vous utilisez les écouteurs tout en exerçant une activité nécessitant votre attention, notamment lorsque vous circulez à vélo ou à pied sur ou à proximité d'une route transitée, d'un chantier, d'une voie de chemin de fer, etc. Retirez les écouteurs ou réglez le volume pour être en mesure d'entendre les sons ambiants, y compris les klaxons, alarmes et signaux d'avertissement.
- **Veillez à NE PAS** utiliser les adaptateurs pour téléphone portable pour connecter vos écouteurs au système audio des cabines d'avion. Le dégagement de chaleur qui en résulterait est susceptible de provoquer des brûlures ou d'endommager les écouteurs.
- Si vous ressentez de la chaleur ou une perte de signal audio, retirez et déconnectez les écouteurs immédiatement.
- Veillez à **NE PAS** immerger vos écouteurs dans l'eau ou les exposer à l'eau pendant des périodes prolongées et à ne pas les porter pour pratiquer des sports aquatiques (natation, ski nautique, surf, etc.).
- **N'exposez PAS** les écouteurs ni les accessoires à l'humidité. Une exposition à l'humidité peut augmenter le risque d'incendie ou de secousse électrique.
- **Ne placez PAS** d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur ce produit.



**AVERTISSEMENT** : certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne les laissez pas à la portée des enfants de moins de 3 ans.



**AVERTISSEMENT** : ce produit contient des composants magnétiques. Contactez votre médecin pour toute question relative à l'effet de ces composants sur le fonctionnement d'un appareil médical implanté.



Ce produit est conforme à toutes les directives de la Communauté européenne qui s'y appliquent. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers mais doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Noms et contenu des substances ou éléments toxiques ou dangereux						
Substances ou éléments toxiques ou dangereux						
Nom	Plomb (Pb)	Mercuré (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Éther de diphényle polybromé (PBDE)
Polychlorobiphényles	X	O	O	O	O	O
Pièces métalliques	X	O	O	O	O	O
Pièces en plastique	O	O	O	O	O	O
Enceintes	X	O	O	O	O	O
Câbles	X	O	O	O	O	O

Les données de ce tableau sont conformes aux dispositions de la norme SJ/T 11364.

O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans GB/T 26572

X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans GB/T 26572

©2015 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

À propos de vos écouteurs intra-auriculaires Bose® SoundTrue® Ultra .....	4
Caractéristiques.....	4
Déballage .....	5
Raccordement à votre appareil.....	6
Utilisation des écouteurs avec votre appareil .....	6
Commandes du casque .....	6
Fonctions de base.....	7
Fonctions de lecture multimédia .....	7
Importance d'une adaptation correcte.....	8
Adaptation des écouteurs à l'oreille .....	8
Changement d'embouts.....	9
Retrait des écouteurs .....	9
Réglage des écouteurs pour plus de confort et de stabilité.....	10
Utilisation de la pince de fixation.....	10
Utilisation d'un seul écouteur.....	10
Résolution des problèmes .....	11

Samsung Galaxy est une marque de commerce de Samsung Electronics Co., Ltd.  
Android est une marque de Google Inc.

## **Renseignements à noter et conserver :**

Le numéro de série et le numéro de modèle se trouvent sur le carton d'emballage d'origine et sur la carte de garantie.

Numéro de série \_\_\_\_\_

Modèle \_\_\_\_\_

Date d'achat \_\_\_\_\_

Nous vous conseillons de conserver votre reçu avec cette notice d'utilisation.

## Utilisation du casque

---

# À propos de vos écouteurs intra-auriculaires Bose® SoundTrue® Ultra

---

Les écouteurs intra-auriculaires Bose® SoundTrue® Ultra offrent une reproduction réaliste du son et un port confortable bien supérieurs aux caractéristiques de la plupart des écouteurs conventionnels.


### Caractéristiques

- Écoutez votre musique en profitant d'un son profond, clair et enveloppant.
- Technologie TriPort® exclusive permettant un rendu naturel des basses fréquences, même à un niveau de volume élevé.
- Le microphone et la télécommande intégrés permettent de basculer entre les appels et la musique sur les appareils Samsung Galaxy et certains modèles d'appareils Android.
- Embouts StayHear® qui maintiennent les écouteurs en place et assurent un confort optimal.
- Conçus et testés pour offrir une qualité supérieure et une grande durabilité.
- Étui de transport pour ranger et protéger les écouteurs.
- Plusieurs couleurs disponibles pour personnaliser votre style.



## Déballage

Déballer les éléments avec précaution et vérifier la présence de tous les composants décrits ci-dessous :




**Remarque :** les écouteurs sont livrés avec les embouts StayHear® Ultra de taille moyenne (gris) installés.

# Utilisation du casque

## Raccordement à votre appareil

Raccordez les écouteurs à la prise casque standard de 3,5 mm de votre appareil.




## Utilisation des écouteurs avec votre appareil

Les écouteurs intra-auriculaires Bose® SoundTrue® Ultra sont dotés d'un microphone et d'une télécommande à 3 boutons intégrés.

**Remarque :** la marque S à l'arrière de la télécommande indique que ces écouteurs sont conçus pour une utilisation avec des appareils Samsung Galaxy et certains appareils Android. Il est possible que toutes les commandes ne fonctionnent pas sur certains modèles ou certaines applications. Consultez le mode d'emploi de votre appareil pour savoir si la télécommande est compatible avec votre modèle.

## Commandes du casque



## Fonctions de base

Augmenter le volume	Appuyez sur le bouton +, puis relâchez-le.
Réduire le volume	Appuyez sur le bouton -, puis relâchez-le.
Répondre à un appel	Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur le bouton Répondre/Raccrocher pour répondre, puis relâchez-le.
Mettre fin à un appel	Appuyez sur le bouton Répondre/Raccrocher.
Refuser un appel	Maintenez enfoncée le bouton Répondre/Raccrocher pendant deux secondes.
Prendre un autre appel en mettant en attente la communication en cours	Pendant une communication, appuyez sur le bouton Répondre/Raccrocher, puis relâchez-le. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour revenir à la première communication.
Prendre un autre appel en mettant fin à la communication en cours	Pendant une communication, maintenez enfoncé le bouton Répondre/Raccrocher pendant deux secondes.
Utiliser les commandes vocales	Maintenez enfoncé le bouton de Répondre/Raccrocher.  Pour plus d'informations sur les commandes vocales, consultez la notice d'utilisation de votre appareil.

## Fonctions de lecture multimédia

Lecture ou mise en pause d'un enregistrement audio ou vidéo	Appuyez sur le bouton Répondre/Raccrocher.
Saut avant	Appuyez rapidement à deux reprises sur le bouton Répondre/Raccrocher.
Saut arrière	Appuyez rapidement à trois reprises sur le bouton Répondre/Raccrocher.


# Utilisation du casque

## Importance d'une adaptation correcte

Pour tirer le meilleur parti de la fonction de réduction des bruits ambiants, il est important de choisir la taille correcte d'embout StayHear® Ultra. Sélectionnez la taille d'embout qui vous offre le plus de confort et d'aisance. Il peut être nécessaire d'essayer les trois tailles pour déterminer la mieux adaptée.

**Remarque :** pour tester les embouts, essayez de parler fort. Votre voix doit vous paraître étouffée dans les deux écouteurs. Si ce n'est pas le cas, essayez un autre embout.

Chaque embout est identifié par la lettre L ou R. Veillez à bien fixer l'embout marqué L à l'écouteur de gauche et l'embout marqué R à l'écouteur de droite.




## Adaptation des écouteurs à l'oreille

L'embout StayHear® permet aux écouteurs de reposer dans le creux de l'oreille sans aucune gêne. L'ailette de l'embout s'adapte juste en dessous du rebord de l'oreille.

### Pour déterminer si l'embout installé est de la taille adaptée :

1. Insérez l'écouteur dans l'oreille de manière à ce que l'embout repose dans l'ouverture du canal auriculaire.
2. Inclinez à nouveau le casque vers l'arrière et appuyez sur l'ailette de l'embout sous le rebord de l'oreille jusqu'à ce qu'elle se mette en place.

Les embouts doivent reposer confortablement dans le creux de l'oreille.




## Changement d'embouts

1. Décollez doucement les bords de l'embout moyen, en veillant à ne pas déchirer celui-ci.

**Attention :** pour éviter tout dommage, ne tirez pas sur l'ailette de l'embout StayHear® Ultra.

2. Positionnez l'ouverture du nouvel embout sur la canule et la petite fente au-dessus de la crosse de celle-ci.
3. Insérez la base de l'embout autour de celle de l'écouteur jusqu'à ce que ce que l'embout soit bien fixé.



## Retrait des écouteurs

Une fois installés dans le creux de l'oreille, les embouts forment un joint hermétique. Pour les retirer, tirez lentement dessus tout en les faisant pivoter de façon à rompre le joint avant de retirer les écouteurs.

## Utilisation du casque

---


### Réglage des écouteurs pour plus de confort et de stabilité

---

Il existe plusieurs façons de modifier la configuration de vos écouteurs pour en améliorer le confort et la stabilité. Vous pouvez personnaliser le port de vos écouteurs à l'aide de la glissière d'ajustement et de la pince de fixation.

#### Utilisation de la pince de fixation

Utilisez la pince de fixation pour fixer le câble à votre vêtement, à la fois pour des raisons de confort et de stabilité, mais aussi pour ne pas être gêné par le câble, en particulier durant des activités physiques ou lorsque vous n'utilisez qu'un seul écouteur.



#### Utilisation d'un seul écouteur

Il est possible d'utiliser les écouteurs intra-auriculaires Bose® SoundTrue® Ultra avec l'écouteur droit (R) uniquement. Vous pouvez ainsi répondre à un appel sans vous couper de votre environnement.

## Résolution des problèmes

En cas de problème lors de l'utilisation de vos écouteurs, consultez les instructions ci-dessous.

Problème	Mesure corrective
Absence de son ou son intermittent	<ul style="list-style-type: none"><li>• Raccordez correctement le câble du casque à la prise casque 3,5 mm de votre appareil.</li><li>• Essayez d'utiliser un embout d'une autre taille.</li><li>• Essayez d'utiliser un autre lecteur.</li></ul>
Trop de graves	<ul style="list-style-type: none"><li>• Désactivez les fonctions d'optimisation audio de la source audio.</li></ul>
Le microphone ne transmet pas les sons	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que vous utilisez un appareil compatible.</li><li>• Raccordez correctement la prise casque à l'entrée de casque.</li><li>• Vérifiez que l'ouverture du microphone à l'arrière du bouton Répondre/Raccrocher n'est pas bloquée.</li><li>• Essayez de passer un nouvel appel.</li><li>• Essayez d'utiliser un autre lecteur.</li></ul>
L'appareil ne réagit pas aux boutons de la télécommande	<ul style="list-style-type: none"><li>• Raccordez correctement le câble du casque à la prise casque 3,5 mm de votre appareil.</li><li>• Pour les commandes à plusieurs pressions : Changez la vitesse des pressions.</li></ul>
L'appareil ne réagit pas à la télécommande	<ul style="list-style-type: none"><li>• il est possible que toutes les commandes ne fonctionnent pas sur certains appareils ou certaines applications.</li></ul>
Chute des embouts	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fixez correctement les embouts aux écouteurs et à la crosse de la canule.</li></ul>
Perte d'un embout	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contactez Bose pour obtenir des embouts de recharge.</li></ul>
Le son est étouffé	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nettoyez les embouts et les canules afin de retirer les saletés et la cire accumulés.</li><li>• Débranchez le casque de la source audio, puis rebranchez-le en veillant à ce qu'il soit bien connecté.</li><li>• Essayez d'utiliser un autre lecteur.</li></ul>

# Importanti istruzioni di sicurezza

Leggere questo manuale d'uso e conservarlo come riferimento per il futuro.



## AVVERTENZE:

- **NON** usare le cuffie a un volume elevato per un lungo periodo di tempo.
  - Per evitare danni all'udito, usare le cuffie a un livello di volume confortevole e moderato.
  - Abbassare il volume del dispositivo prima di indossare le cuffie, quindi alzarlo gradualmente fino a raggiungere il livello d'ascolto più confortevole.
- **USARE CAUTELA** e osservare le leggi vigenti relative all'uso di telefoni cellulari e cuffie se si usano le cuffie per conversazioni telefoniche durante la guida. Alcune giurisdizioni prevedono restrizioni specifiche, ad esempio l'utilizzo di un solo auricolare, per l'impiego di tali prodotti durante la guida. **NON** usare le cuffie per qualsiasi altro scopo durante la guida.
- **È IMPORTANTE** non perdere mai di vista la propria sicurezza e quella degli altri se si usano le cuffie mentre si svolge un'attività che richiede la propria attenzione, ad esempio quando si va in bicicletta o si cammina vicino a una strada trafficata, un cantiere o una ferrovia, ecc. Rimuovere le cuffie o regolare il volume per essere sicuri di sentire i suoni circostanti, inclusi i segnali di allarme e di avvertimento.
- **NON** utilizzare un adattatore per telefono cellulare per collegare le cuffie ai connettori presenti sui sedili degli aerei, per evitare il rischio di scottature o danni dovuti al surriscaldamento.
- **RIMUOVERE** e scollegare immediatamente le cuffie se si percepisce un aumento di temperatura o si riscontra una perdita di audio.
- **NON** immergere o esporre all'acqua le cuffie per periodi prolungati né indossarle quando si praticano sport acquatici quali nuoto, sci d'acqua, surf, ecc.
- **NON** far bagnare le cuffie o gli accessori. L'esposizione all'umidità potrebbe incrementare il rischio di incendio o di scosse elettriche.
- **NON** collocare sorgenti di fiamme libere (ad esempio candele accese) sull'apparecchio o nelle sue vicinanze.



**AVVERTENZA:** Contiene pezzi di piccole dimensioni che possono rappresentare un pericolo di soffocamento. Non adatto per bambini di età inferiore ai 3 anni.



**AVVERTENZA:** Questo prodotto contiene materiale magnetico. Rivolgersi al proprio medico per eventuali domande sui possibili effetti del prodotto sui dispositivi medici impiantati nel corpo umano.



Questo prodotto è conforme a tutti i requisiti pertinenti delle direttive UE. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato a una struttura di raccolta appropriata per il riciclaggio. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a preservare le risorse naturali, la salute e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi alle autorità locali, al servizio di smaltimento dei rifiuti o al negozio presso il quale è stato acquistato.

## Nome e contenuto delle sostanze o degli elementi tossici o pericolosi

Sostanze ed elementi tossici o pericolosi

Nome parte	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (CR(VI))	Bifenile polibromurato (PBB)	Difenilietere polibromurato (PBDE)
Circuiti stampati	X	0	0	0	0	0
Parti di metallo	X	0	0	0	0	0
Parti di plastica	0	0	0	0	0	0
Diffusori	X	0	0	0	0	0
Cavi	X	0	0	0	0	0

Questa tabella è stata messa a punto in accordo a quanto previsto dallo standard SJ/T 11364.

O: indica che la sostanza pericolosa contenuta in tutti i materiali omogenei della parte è inferiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572.

X: indica che la sostanza pericolosa contenuta in almeno uno dei materiali omogenei della parte è superiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572.



© 2015 Bose Corporation. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, modificata, distribuita o usata in altro modo senza previa autorizzazione scritta.



Informazioni sulle cuffie in-ear Bose® SoundTrue® Ultra .....	4
Caratteristiche .....	4
Disimballaggio .....	5
Collegamento del dispositivo .....	6
Uso delle cuffie con il dispositivo .....	6
Controlli delle cuffie .....	6
Funzioni di base.....	7
Funzioni di riproduzione multimediale.....	7
Importanza del comfort .....	8
Inserimento delle cuffie nelle orecchie.....	8
Sostituzione dei puntali.....	9
Rimozione delle cuffie.....	9
Ulteriori regolazioni per garantire comfort e stabilità .....	10
Uso della clip per abiti .....	10
Uso di un auricolare singolo.....	10
Risoluzione dei problemi.....	11

Samsung Galaxy è un marchio commerciale di Samsung Electronics Co., Ltd.  
Android è un marchio registrato di Google Inc.

## **Compilare e conservare le seguenti informazioni:**

I numeri di serie e di modello si trovano sulla confezione originale e sulla scheda della garanzia.

Numero di serie \_\_\_\_\_

Numero di modello \_\_\_\_\_

Data d'acquisto \_\_\_\_\_

È consigliabile conservare la ricevuta insieme a questo manuale di istruzioni.

## Utilizzo delle cuffie

---

# Informazioni sulle cuffie in-ear Bose® SoundTrue® Ultra

---


Le cuffie in-ear Bose® SoundTrue® Ultra uniscono prestazioni audio realistiche a un design confortevole, caratteristiche difficili da trovare nella maggior parte delle cuffie tradizionali.

### Caratteristiche

- Goditi la musica e lasciati assorbire completamente da un suono ricco e pulito.
- Esclusiva tecnologia TriPort® per bassi dal timbro naturale, anche a volumi elevati.
- Microfono e telecomando in linea per passare facilmente dalle chiamate alla musica e viceversa sui dispositivi Samsung Galaxy e specifici dispositivi Android.
- I puntali StayHear® mantengono in posizione le cuffie in modo confortevole.
- Progettate e testate per la massima qualità e durevolezza.
- La custodia consente di conservare e proteggere le cuffie.
- Disponibili in un'ampia gamma di colori tra cui scegliere quello più adatto al proprio stile.

## Disimballaggio

Aprire con cautela la confezione e verificare che i seguenti componenti siano inclusi:



**Nota:** Le cuffie vengono fornite con puntali StayHear® Ultra medi (grigi) già montati.


## Utilizzo delle cuffie

---

### Collegamento del dispositivo

---

Collegare le cuffie al connettore per cuffie standard da 3,5 mm del dispositivo.




### Uso delle cuffie con il dispositivo

---

Le cuffie in-ear Bose® SoundTrue® Ultra sono dotate di un microfono in linea e di un telecomando a tre pulsanti.

**Nota:** Il segno S sul retro del telecomando indica che queste cuffie sono progettate per i dispositivi Samsung Galaxy e modelli specifici di dispositivi Android. È possibile che per alcuni modelli o determinate applicazioni non tutti i controlli siano disponibili. Per verificare se i telecomandi funzionano con il proprio modello specifico, consultare la guida per l'utente del dispositivo.

### Controlli delle cuffie



## Funzioni di base

Aumentare il volume	Premere e rilasciare il pulsante +.
Ridurre il volume	Premere e rilasciare il pulsante -.
Rispondere a una chiamata	Quando si riceve una chiamata, premere e rilasciare il tasto Rispondi/Fine per rispondere.
Chiudere una chiamata	Premere e rilasciare il pulsante Rispondi/Fine.
Rifiutare una chiamata in arrivo	Premere e tenere premuto il pulsante Rispondi/Fine per circa due secondi, quindi rilasciarlo.
Passare a una chiamata in attesa mettendo in attesa quella corrente	Durante una conversazione, premere e rilasciare il pulsante Rispondi/Fine una volta. Premerlo e rilasciarlo di nuovo per tornare alla prima chiamata.
Passare a una chiamata in arrivo o in attesa chiudendo quella corrente	Durante una conversazione, premere e tenere premuto il pulsante Rispondi/Fine per circa due secondi, quindi rilasciarlo.
Uso del controllo vocale	Premere e tenere premuto il pulsante Rispondi/Fine.  Per ulteriori informazioni sul controllo vocale, consultare il manuale di istruzioni del dispositivo.

## Funzioni di riproduzione multimediale

Riprodurre o mettere in pausa un brano musicale o un video	Premere e rilasciare il pulsante Rispondi/Fine.
Salto in avanti	Premere e rilasciare il pulsante Rispondi/Fine due volte in rapida successione.
Salto all'indietro	Premere e rilasciare il pulsante Rispondi/Fine tre volte in rapida successione.


# Utilizzo delle cuffie

## Importanza del comfort

Per assicurare prestazioni audio ottimali, è importante scegliere i puntali StayHear® Ultra della dimensione corretta. Selezionare il formato che offre il maggiore comfort quando inserito nell'orecchio. Potrebbe essere necessario provare tutte e tre le taglie per trovare quella che si adatta meglio alla propria conformazione auricolare.

**Nota:** Per verificare se si adattano bene alle orecchie, provare a parlare a voce alta. Il suono della propria voce deve risultare smorzato in entrambe le orecchie. In caso contrario, provare un puntale di un'altra taglia.

Ciascun puntale è contrassegnato dalla lettera L o R. Assicurarsi di collegare il puntale sinistro (L) all'auricolare sinistro e il puntale destro (R) a quello destro.




## Inserimento delle cuffie nelle orecchie

Il puntale StayHear® permette di inserire comodamente l'auricolare nell'incavo dell'orecchio. L'archetto dell'auricolare si adatta dietro il lobo.

### Per stabilire se il puntale è della taglia corretta:


1. Inserire la cuffia nell'orecchio in modo che il puntale si insedi delicatamente nell'apertura del canale auricolare.
2. Inclinare le cuffie all'indietro e premere l'archetto sotto il lobo dell'orecchio fino a fissarlo.

I puntali devono risultare comodi ma allo stesso tempo saldi nell'incavo dell'orecchio.



## Sostituzione dei puntali

1. Staccare delicatamente i bordi del puntale per rimuoverlo dall'auricolare, facendo attenzione a non strapparli.  
**Attenzione:** Per evitare di danneggiare le cuffie, non tirare l'archetto StayHear® Ultra.
2. Posizionare l'apertura del nuovo puntale sopra l'ugello e la piccola fessura sopra il gancio dell'ugello.
3. Adattare la base del puntale sulla base dell'auricolare fino a quando non è completamente fissata.



## Rimozione delle cuffie

Il puntale potrebbe aderire strettamente alla parte interna dell'orecchio. Con un movimento lento e a torsione, staccarlo gradualmente prima di togliere le cuffie.

## Utilizzo delle cuffie

---


### Ulteriori regolazioni per garantire comfort e stabilità

---

Sono disponibili vari modi per regolare le cuffie al fine di migliorarne ulteriormente il comfort e la stabilità. È possibile personalizzare il modo di indossare le cuffie utilizzando il cursore di regolazione e la clip per abiti.

#### Uso della clip per abiti

Utilizzando la clip per abiti per fissare il cavo ai vestiti è possibile migliorare la praticità d'uso e la stabilità e ottimizzare la gestione del cavo. In particolare, la clip risulta utile quando si è in costante movimento oppure quando si indossa un solo auricolare.



#### Uso di un auricolare singolo

Le cuffie in-ear Bose® SoundTrue® Ultra possono essere utilizzate anche inserendo solo l'auricolare destro (R) nell'orecchio. In questo modo è possibile rispondere alle chiamate senza isolarsi dall'ambiente circostante.



## Risoluzione dei problemi

In caso di problemi durante l'uso delle cuffie, provare ad adottare le soluzioni indicate in questa sezione.

Problema	Soluzione
Assenza di audio/Audio intermittente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Collegare bene il cavo delle cuffie al connettore cuffie da 3,5 mm del dispositivo.</li> <li>• Provare un puntale di un'altra taglia.</li> <li>• Provare con un altro dispositivo.</li> </ul>
Bassi eccessivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivare qualsiasi funzione di ottimizzazione del suono nella sorgente audio.</li> </ul>
Il microfono non rileva alcun suono	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assicurarsi che il dispositivo utilizzato sia compatibile.</li> <li>• Collegare bene lo spinotto delle cuffie all'ingresso corrispondente.</li> <li>• Verificare che l'apertura del microfono sul retro del pulsante Rispondi/Fine non sia ostruita.</li> <li>• Provare a chiamare un numero differente.</li> <li>• Provare con un altro dispositivo.</li> </ul>
Il dispositivo non risponde ai comandi (pulsanti) del telecomando	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Collegare bene il cavo delle cuffie al connettore cuffie da 3,5 mm del dispositivo.</li> <li>• Per le funzioni che prevedono pressioni successive: Variare la velocità delle pressioni.</li> </ul>
Il dispositivo non risponde al telecomando	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È possibile che per alcuni dispositivi o determinate applicazioni non tutti i controlli siano disponibili.</li> </ul>
I puntali degli auricolari si staccano	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fissare bene i puntali agli auricolari e ai ganci degli ugelli.</li> </ul>
Puntali degli auricolari persi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contattare Bose per richiedere puntali sostitutivi.</li> </ul>
L'audio è smorzato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulire accuratamente i puntali e gli ugelli delle cuffie.</li> <li>• Scollegare le cuffie dalla sorgente audio, quindi ricollegarle assicurandosi che siano fissate saldamente.</li> <li>• Provare con un altro dispositivo.</li> </ul>

# Fontos biztonsági információk

**Olvassa el figyelmesen ezt a kezelési útmutatót, és őrizze meg a későbbiekre.**



## VIGYÁZAT:

- **NE** használja a fülhallgatókat huzamosabb ideig magas hangerőn.
  - A halláskárosodás elkerülése érdekében a fülhallgatókat a fül számára kellemes, mérsékelt hangerővel használja.
  - Halkítsa le az eszközt, mielőtt a fülébe helyezné a fülhallgatókat, majd fokozatosan hangosítsa fel az eszközt, amíg el nem éri az Ön számára megfelelő hangerőt.
- **LEGYEN ÓVATOS**, és tartsa be a mobiltelefonok és fejhallgatók használatára vonatkozó jogszabályokat, ha a fülhallgatókat vezetés közben telefonáláshoz használja. Az ilyen eszközök vezetés közbeni használatát illetően egyes jogrendek korlátozásokat szabhatnak meg, például tilthatják a fülhallgatók mindkét fülön történő használatát. **NE** használja a fülhallgatókat semmilyen más célra vezetés közben.
- **ÜGYELJEN** a saját és mások biztonságára, ha a fülhallgatók használata közben egyéb, figyelmet igénylő tevékenységet is végez, például kerékpározik vagy forgalmas helyen, építési terület vagy vasúti sínek közelében sétál stb. Vegye le a fülhallgatókat, vagy állítsa be úgy a hangerőt, hogy meghallja a környező zajokat, ideértve a figyelmeztető és riasztójelzéseket is.
- **NE** csatlakoztassa a fülhallgatókat mobiltelefon-adapter segítségével a repülőgépipülésbe épített aljzathoz, mert ez személyi sérülést, például égést vagy anyagi kárt okozhat a túlmelegedés miatt.
- **AZONNAL** válassa le és távolítsa el a fülhallgatókat, ha melegeledést vagy hangkiesést tapasztal.
- **NE** engedje, hogy a fülhallgatók hosszabb ideig vízbe merüljenek, vagy vízzel érintkezzenek, és ne használja azokat vízi sportok (pl. úszás, vízisízés, szörfözés stb.) közben.
- **NE** engedje, hogy a fülhallgatók vagy a tartozékok vízzel érintkezzenek. A nedvességgel történő érintkezés növeli a tűz vagy áramütés kockázatát.
- **NE** helyezzen gyertyát vagy egyéb nyílt lánggal égő tárgyat a termékre vagy annak közelébe.



**VIGYÁZAT:** A termék apró alkatrészei fulladást okozhatnak. 3 éves kor alatti gyermekek számára nem alkalmas.



**FIGYELEM:** A termék mágneses anyagot tartalmaz. Ha szeretné tudni, hogy a mágneses anyag befolyásolhatja-e az Ön beültetett orvosi eszközének működését, forduljon orvosához.



A termék az EU-irányelvek minden vonatkozó követelményének megfelel. A teljes megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance) címen.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem egy megfelelő hulladékkezelő létesítményben kell leadni, ahol gondoskodnak a termék újrahasznosításáról. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelméhez. A feleslegessé vált termék kezelésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzat hulladékkezeléssel megbízott szolgáltatójához, vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.

Mérgező vagy veszélyes anyagok és vegyi elemek nevei a termékben						
Mérgező vagy veszélyes anyagok és elemek						
Alkatrész neve	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű króm (Cr(VI))	Polibrominált bifénil (PBB)	Polibrominált difeniléter (PBDE)
NYÁK-ok	X	0	0	0	0	0
Fémrészek	X	0	0	0	0	0
Műanyag részek	0	0	0	0	0	0
Hangszórók	X	0	0	0	0	0
Kábelek	X	0	0	0	0	0

Ez a táblázat az SJ/T 11364 előírásainak megfelelően készült.

O: Azt jelzi, hogy az említett mérgező vagy veszélyes anyagot az alkatrész összes homogén anyaga a GB/T 26572 előírásaiban meghatározott határértéknél kisebb mennyiségben tartalmazza.

X: Azt jelzi, hogy az említett mérgező vagy veszélyes anyagot az alkatrész legalább egy homogén anyaga a GB/T 26572 korlátozó előírásait meghaladó mértékben tartalmazza.

©2015 Bose Corporation. Előzetes írásos engedély nélkül a jelen kiadvány semmilyen része nem sokszorosítható, módosítható, terjeszthető, illetve nem használható fel semmilyen más módon.

A Bose® SoundTrue® Ultra fülhallgató bemutatása.....	4
Jellemzők.....	4
Kicsomagolás .....	5
Csatlakoztatás az eszközhöz.....	6
A fülhallgatók használata az eszközzel.....	6
A fülhallgató vezérlőelemei.....	6
Alapvető funkciók.....	7
Médialejátszási funkciók.....	7
A megfelelő illeszkedés fontossága.....	8
A fülhallgatók felhelyezése a fülre .....	8
A fülbetétek cseréje .....	9
A fülhallgatók levétele a fülről .....	9
A kényelem és a stabilitás beállítása.....	10
A ruhacsipesz használata .....	10
Egyetlen fülhallgató használata.....	10
Hibaelhárítás .....	11

A Samsung Galaxy a Samsung Electronics Co., Ltd. védjegye.  
Az Android a Google Inc. védjegye.

## **Feljegyzendő és megőrzendő adatok:**

A sorozatszám és a típuszám megtalálható az eredeti dobozon és a jótállási jegyen.

Gyári szám \_\_\_\_\_

Típuszám \_\_\_\_\_

A vásárlás dátuma \_\_\_\_\_

A vásárlási bizonylatot érdemes a kezelési útmutató mellett tartani.

# A fülhallgató használata

---

## A Bose® SoundTrue® Ultra fülhallgató bemutatása

---


A Bose® SoundTrue® Ultra fülhallgató egyszerre nyújt élethű hangzást és kényelmes illeszkedést, amit a legtöbb hagyományos fejhallgató nem biztosít.

### Jellemzők

- Merüljön el a zene mélyen bűgó, tiszta hangjaiban.
- A különleges TriPort® technológia biztosítja a mélyhangok természetes hangzását még magas hangerőn is.
- A vezetékbe épített mikrofonnal és távvezérlővel Samsung Galaxy készülékek és bizonyos Android-eszközök esetében válthat a telefonbeszélgetések és a zenehallgatás között.
- A StayHear® fülbetétek kényelmesen a helyén tartják a fülhallgatót.
- Időtálló és tartós kialakítás.
- A hordtok tárolja és óvja a fülhallgatót.
- Több színben kapható, hogy kiválaszthassa a stílusához illőt.

## Kicsomagolás

Óvatosan csomagolja ki a dobozt, és ellenőrizze a következő összetevők meglétét:




**Megjegyzés:** A fülhallgatóra a közepes (szürke) StayHear® Ultra fülbetétek vannak feltéve.

## A fülhallgató használata

### Csatlakoztatás az eszközhöz

Csatlakoztassa a fülhallgatót az eszköz szabványos 3,5 mm-es aljzatához.




### A fülhallgatók használata az eszközzel

A Bose® SoundTrue® Ultra fülhallgató vezetékbe épített mikrofonnal és három gombos távvezérlővel rendelkezik.

**Megjegyzés:** A távvezérlő hátoldalán látható S jelzés arra utal, hogy ezeket a fülhallgatókat a Samsung Galaxy eszközökkel és bizonyos Android-eszközökkel való használatra tervezték. Bizonyos eszközök és alkalmazások esetén előfordulhat, hogy nem használható minden vezérlőelem. A készülék kezelési útmutatójából megtudhatja, hogy az Ön készülékével működik-e a távvezérlő.

### A fülhallgató vezérlőelemei



## Alapvető funkciók

Hangosítás	Nyomja meg és engedje fel a + gombot.
Halkítás	Nyomja meg és engedje fel a - gombot.
Hívás fogadása	Ha bejövő hívása érkezik, nyomja meg és engedje fel a Válasz/vége gombot a hívás fogadásához.
Hívás befejezése	Nyomja meg és engedje fel a Válasz/vége gombot.
Bejövő hívás elutasítása	Nyomja le a Válasz/vége gombot kb. 2 másodpercre, majd engedje fel.
Átkapcsolás a bejövő vagy tartott hívásra és az aktuális hívás tartása	Hívás közben egyszer nyomja meg és engedje fel a Válasz/vége gombot. Az első hívásra való átkapcsoláshoz újból nyomja meg és engedje fel a gombot.
Átkapcsolás a bejövő vagy tartott hívásra és az aktuális hívás befejezése	Hívás közben nyomja le a Válasz/vége gombot kb. 2 másodpercig, majd engedje fel.
A hangvezérlés használata	Tartsa nyomva a Válasz/vége gombot. A hangvezérléssel kapcsolatban további információkat a készülék kezelési útmutatójában talál.

## Médialejátszási funkciók

Zeneszám vagy videó lejátszása vagy szüneteltetése	Nyomja meg és engedje fel a Válasz/vége gombot.
Ugrás előre	Kétszer egymás után gyorsan nyomja meg és engedje fel a Válasz/vége gombot.
Ugrás hátra	Háromszor egymás után gyorsan nyomja meg és engedje fel a Válasz/vége gombot.


# A fülhallgató használata

## A megfelelő illeszkedés fontossága

Az optimális hangteljesítmény érdekében fontos, hogy a megfelelő méretű StayHear® Ultra fülbetétet használja. Válassza ki azt a méretet, amely a legkényelmesebben és a legjobban illeszkedik mindkét fülébe. A legjobban illeszkedő fülbetét kiválasztásához érdemes kipróbálni mindhárom méretet.

**Megjegyzés:** Az illeszkedés ellenőrzéséhez beszéljen hangosan. Ha a fülbetétek jól illeszkednek, mindkét fülével csak tompán hallja a saját hangját. Ellenkező esetben válasszon másik méretű fülbetétet.

Mindegyik fülbetéten található egy L vagy R jelzés. Ügyeljen arra, hogy a bal oldali fülbetétet (L) a bal oldali füldugóra, a jobb oldali fülbetétet (R) pedig a jobb oldali füldugóra helyezze rá.




## A fülhallgatók felhelyezése a fülre

A StayHear® fülbetét segítségével a füldugó kényelmesen illeszkedik az Ön fülkagylójába. A fülbetét szárnya a fülkagyló ellencáp nevű része alá illeszkedik.

### Ellenőrizze, megfelelő méretű-e a fülbetét:

1. Helyezze a fülhallgatókat a fülébe úgy, hogy a fülbetétet a fülcsatorna nyílásához illeszti.
2. Fordítsa el hátrafelé a fülhallgatót, és a fülbetét szárnyát nyomja a fülkagyló ellencáp nevű része alá úgy, hogy jól rögzítse a eszközt.

A fülbetéteknek kellemetlen érzés nélkül, de stabilan kell a fülkagylóba illeszkedniük.






## A fülbetétek cseréje

1. Finoman húzza le a fül dugóról a felhelyezett fülbetét széleit, ügyelve arra, hogy el ne szakadjon a fülbetét.

**FIGYELEM:** Ne a szárnyánál fogva húzza a StayHear® Ultra fülbetétet, mert az megsérülhet.

2. Illessze az új fülbetét nyílását a fej, a kis bevágást pedig a fej kampója fölé.
3. Nyomja rá a fülbetét alapját a fül dugó alapjára, amíg úgy nem érzi, hogy stabilan rögzítette a fülbetétet.



## A fülhallgatók levétele a fülről

Előfordulhat, hogy a fülbetét szorosan a füléhez tapad. Lassú, csavaró mozdulattal fokozatosan lazítsa ki a fülbetétet, majd vegye ki a fülhallgatót a füléből.

## A fülhallgató használata

---


### A kényelem és a stabilitás beállítása

---

Többféle módon módosíthatja a fülhallgatót, hogy az még kényelmesebb és stabilabb legyen. A szabályozócsúszka és a ruhacsipesz segítségével egyéni használati szokásaihoz szabhatja a fülhallgatót.

#### A ruhacsipesz használata

A ruhacsipesszel ruházatához erősítheti a kábelt, kényelmesebbé téve az eszköz használatát, megkönnyítve a kábel kezelését és stabilizálva azt. Ez hasznos lehet gyors mozgással járó tevékenységek közben vagy akkor, ha a fülhallgatót csak az egyik fülében használja.



#### Egyetlen fülhallgató használata

A Bose® SoundTrue® Ultra fülhallgatót úgy is használhatja, hogy csak a jobb (R) füldugót helyezi a fülébe. Így fogadhatja a hívásokat, és hallhatja a környező hangokat is.

## Hibaelhárítás

Ha a fejhallgató használata során bármilyen problémát észlel, próbálkozzon az alábbi hibaelhárítási eljárásokkal.

Probléma	Teendő
Nincs hang, vagy szakadozik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Csatlakoztassa megfelelően a fülhallgató kábelét az eszköz szabványos 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozójához.</li><li>• Próbálkozzon egy másik fülbetétmérettel.</li><li>• Próbáljon ki egy másik eszközt.</li></ul>
Túl erősek a mélyhangok	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kapcsolja ki a hangforrás hangkiemelési funkcióit.</li></ul>
A mikrofon nem veszi fel a hangot.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Győződjön meg róla, hogy kompatibilis eszközt használ.</li><li>• Stabílan csatlakoztassa a fülhallgató dugóját a fejhallgató-aljzathoz.</li><li>• Ellenőrizze, nincs-e letakarva a mikrofon nyílása a Válasz/vége gomb túloldalán.</li><li>• Próbálkozzon még egy telefonhívással.</li><li>• Próbáljon ki egy másik eszközt.</li></ul>
Az eszköz nem reagál a távvezérlőn végzett gombnyomásokra	<ul style="list-style-type: none"><li>• Csatlakoztassa megfelelően a fülhallgató kábelét az eszköz szabványos 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozójához.</li><li>• Több gombnyomásos funkciók esetében: változtasson a gombnyomások sebességén.</li></ul>
Az eszköz nem reagál a távvezérlő jeleire	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bizonyos eszközök és alkalmazások esetén előfordulhat, hogy nem használható minden vezérlőelem.</li></ul>
A fülbetétek leesnek.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stabílan illessze rá a fülbetéteket a fül dugóra és a fej kampójára.</li></ul>
Elveszett a fülbetét.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pót fülbetétekért forduljon a Bose-hoz.</li></ul>
A fülhallgató tompán szól	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tisztítsa meg minden szennyeződéstől és zsírtól a fülbetéteket és a fülhallgatófejeket.</li><li>• Válassza le a fülhallgatókat a hangforrásról, majd csatlakoztassa újra, ügyelve a jó csatlakozásra.</li><li>• Próbáljon ki egy másik eszközt.</li></ul>

# Viktig sikkerhetsinformasjon

Les denne brukerveiledningen nøye, og oppbevar den for fremtidig referanse.



## ADVARSLER:

- **IKKE** bruk hodetelefonene på høyt volum over en lengre periode.
  - Hvis du vil unngå hørselsskader, må du bruke hodetelefonene på et komfortabelt, moderat volumnivå.
  - Skru volumet ned på enheten før du plasserer hodetelefonene i ørene, og skru deretter volumet opp gradvis til et komfortabelt lytenivå.
- **VÆR** forsiktig og følg gjeldende lovgivning med hensyn til bruk av mobiltelefon og hodetelefoner hvis du bruker hodetelefonene til telefonsamtaler når du kjører. Noen jurisdiksjoner pålegger konkrete begrensninger, for eksempel konfigurasjon med én øreplugg, på bruk av slike produkter under kjøring
- **IKKE** bruk hodetelefonene til andre formål når du kjører.
- **FOKUSER** på egen og andres sikkerhet hvis du bruker hodetelefonene når du holder på med andre aktiviteter som krever din oppmerksomhet, for eksempel når du sykler eller går i eller nær trafikk, byggeplasser eller jernbane og så videre. Ta av hodetelefonene eller juster volumet for å sikre at du kan høre lydene fra omgivelsene, herunder alarmer og varselsignaler.
- **IKKE** bruk adaptere for mobiltelefon tilkoblet hodetelefoner på setekontakter i fly siden dette kan fører til personlig skade, som brannskader eller skade på eiendeler, på grunn av overoppheting.
- **FJERN** hodetelefonene og koble fra umiddelbart hvis det oppstår en varmfølelse eller hørselstap.
- **IKKE** senk i eller utsett for vann i lengre perioder, eller bruk dem når du deltar i vannsport, som svømming, vannski, surfing og så videre.
- **IKKE** bruk hodetelefonene til andre formål når du kjører. Eksponering for fukt kan øke risikoen for brann eller elektrisk støt.
- **IKKE** plasser kilder til bar ild, for eksempel tente stearinlys, på eller nær produktet.



**ADVARSEL:** Inneholder små deler som kan medføre fare for kvelning, Ikke egnet for barn under 3 år.



**ADVARSEL:** Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege hvis du har spørsmål om dette kan påvirke drift av implantert medisinsk utstyr.



Produktet overholder alle kravene i gjeldende EU-direktiver. Den fullstendige overholdelseserklæringen finner du på [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)



Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres til en passende innsamlingsanlegg for gjenvinning. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Hvis du vil ha mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet, kan du kontakte kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

## Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler

Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler

Delenavn	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent (CR(VI))	Polybromerte bifenyler (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCBer	X	0	0	0	0	0
Metalldeler	X	0	0	0	0	0
Plastikdeler	0	0	0	0	0	0
Høytalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0

Denne tabellen er klargjort i henhold til krav i SJ/T 11364.

O: Angir at angitt giftig eller farlig stoff som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572.

X: Angir at angitt giftig eller farlig stoff som finnes i minst én av de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572.



©2015 Bose Corporation. Ingen del av dette produktet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten å ha innhentet skriftlig tillatelse på forhånd.

Om dine Bose® SoundTrue® Ultra in-ear headphones.....	4
Funksjoner.....	4
Utpakking.....	5
Koble til enheten.....	6
Bruke hodetelefonene med enheten.....	6
Hodetelefonkontroller.....	6
Grunnleggende funksjoner.....	7
Funksjoner for medieavspilling.....	7
Viktigheten av riktig passform.....	8
Tilpasse hodetelefonen til øret.....	8
Bytte øretupper.....	9
Ta av hodetelefonene.....	9
Justere for komfort og stabilitet.....	10
Bruke klesklypen.....	10
Bruke én øreplugg.....	10
Feilsøking.....	11

Samsung Galaxy er et varemerke for Samsung Electronics Co., Ltd.  
Android er et varemerke for Google Inc.

## Fyll ut og oppbevar for senere bruk:

Du finner serie- og modellnummer på den opprinnelige transportesken og garantikortet.

Serienummer \_\_\_\_\_

Modellnummer \_\_\_\_\_

Kjøpsdato \_\_\_\_\_

Vi foreslår at du oppbevarer kvitteringen sammen med brukerveiledningen.

# Bruke hodetelefonene

---

## Om dine Bose® SoundTrue® Ultra in-ear headphones

---


Bose® SoundTrue® Ultra in-ear headphones tilbyr en kombinasjon av naturtro lydgjengivelse og behagelig passform som ikke tilgjengelig fra de fleste vanlige hodetelefoner.

### Funksjoner

- Hør på musikken din med en dyp og klar lyd som omslutter deg fullstendig.
- Eksklusiv TriPort®-teknologi gjengir svake lyder naturligtone selv ved høyt volum.
- Mikrofon og fjernkontroll på ledningen for enkel veksling mellom samtaler og musikk med utvalgte Samsung Galaxy- og Android-enheter.
- StayHear®-tuppene holder hodetelefonene komfortabelt på plass.
- Utviklet og testet for kvalitet som varer.
- Bæreeske til oppbevaring og beskyttelse av hodetelefonene.
- Tilgjengelige i forskjellige farger slik at du finner noen som passer til stilen din.

## Utpakking

Pakke esken forsiktig ut, og kontroller at følgende deler følger med:




**Merk:** Hodetelefonene leveres med monterte mellomstore (grå) StayHear®-tupper.

# Bruke hodetelefonene

## Koble til enheten

Koble hodetelefonene til den standard 3,5 mm hodetelefonkontakten på enheten.




## Bruke hodetelefonene med enheten

The Bose® SoundTrue® Ultra in-ear headphones leveres med mikrofon på ledningen og fjernkontroll med tre knapper.

**Merk:** S-markeringen på baksiden av fjernkontrollen angir at disse hodetelefonene er utformet til bruk med Samsung Galaxy-enheter og utvalgte Android-enheter. Full kontroll er kanskje ikke tilgjengelig for enkelte Apple-produkter. Se brukerveiledningen for enheten for å finne ut om fjernkontrollen fungerer med modellen.

## Hodetelefonkontroller





## Grunnleggende funksjoner

Øke volumet	Trykk og slipp +-knappen.
Redusere volumet	Trykk og slipp --knappen.
Motta en samtale	Når du mottar en innkommende samtale, trykker og slipper du Svar/avslutt-knappen for å svare.
Avslutte en samtale	Trykk og slipp Svar/avslutt-knappen.
Avvise en innkommende samtale	Trykk og hold Svar/avslutt-knappen i ca. to sekunder før du slipper den.
Bytte til en innkommende eller ventende samtale og sette gjeldende samtale på vent	Når du er i en samtale, trykker og slipper du Svar/avslutt-knappen én gang. Trykk og slipp på nytt for å gå tilbake til den første samtalen.
Bytte til en innkommende eller ventende samtale og avslutte gjeldende samtale	Når du er i en samtale, trykker og holder du Svar/avslutt-knappen i ca. to sekunder før du slipper den.
Bruke talekontroll	Trykk og hold Svar/avslutt-knappen. Hvis du vil ha mer informasjon om talekontroll, kan du se brukerveiledningen for enheten.

## Funksjoner for medieavspilling

Spille av eller pause en sang eller video	Trykk og slipp Svar/avslutt-knappen.
Hopp frem	Trykk og slipp Svar/avslutt-knappen hurtig to ganger.
Hopp tilbake	Trykk og slipp Svar/avslutt-knappen hurtig tre ganger.


# Bruke hodetelefonene

## Viktigheten av riktig passform

Det er viktig å velge riktig størrelse på StayHear® Ultra-tuppen for best mulig lydgjengivelse. Velg størrelsen som er mest komfortabel og passer best i hvert øre. Det kan hende du må prøve alle tre størrelsene for å avgjøre hvilken som passer best.

**Merk:** Du prøver passformen ved å snakke høyt. Din stemme skal høres dempet i begge ørene. Hvis ikke, velg en annen tuppstørrelse.

Hver tupp er merket med L eller R. Pass på at du fester venstre tupp (L) til venstre øreplugg og høyre tupp (R) til høyre øreplugg.




## Tilpasse hodetelefonen til øret

StayHear®-tuppen lar ørepluggen hvile komfortabelt i øret. Den brede delen av tuppen passer like under ørekanten.

### Gjør følgende for å avgjøre om tuppen har riktig størrelse:


1. Sett hodetelefonen inn i øret, slik at tuppen hviler forsiktig i åpningen av ørekanalen.
2. Vipp hodetelefonen tilbake, og press tuppkanten under ørekanten til den sitter godt fast.

Tuppen skal passe komfortabelt og sikkert i øret.



## Bytte øretupper

1. Løsne forsiktig kantene av den festede tuppen fra ørepluggen, og vær forsiktighet slik at tuppen ikke rives.  
**Forsiktig:** Ikke dra i StayHear® Ultra-tuppkanten for å unngå skade.
2. Plasser åpningen av den nye tuppen over munnstykket og den lille åpningen over munnstykkekrøken.
3. Plasser enden av tuppen forsiktig ned rundt enden av ørepluggen til tuppen sitter godt fast.



## Ta av hodetelefonene

Øretuppen kan skape en tett forsegling i øret. Bruk en langsom, vridende bevegelse for langsomt å bryte forseglingen før du tar av hodetelefonene.

# Bruke hodetelefonene

---


## Justere for komfort og stabilitet

---

Du kan justere hodetelefonene for ekstra komfort og stabilitet på flere måter. Du kan tilpasse hvordan du bruker hodetelefonene med glidejusteringen og klesklypen.

### Bruke klesklypen

Bruk klesklype til å feste kablen til klærne, for enkelhets skyld, stabilitet og for å holde orden på kablen. Dette kan være nyttig ved aktiviteter med mye bevegelse eller når du bruker hodetelefonene med bare én øreplugg.



### Bruke én øreplugg

Bose® SoundTrue® Ultra in-ear headphones kan brukes med bare den høyre (R) ørepluggen i øret. Dette lar deg motta samtaler og fremdeles høre lydene fra omgivelsene.

## Feilsøking

Hvis du har problemer med å bruke hodetelefonene, kan du prøve å følge instruksjonene for feilsøking:

Problem	Gjør dette
Ingen eller uregelmessig lyd	<ul style="list-style-type: none"><li>• Koble hodetelefonkabelen godt til den standard 3,5 mm hodetelefonkontakten på enheten.</li><li>• Prøv en annen øretuppstørrelse.</li><li>• Prøv en annen enhet.</li></ul>
For mye bass	<ul style="list-style-type: none"><li>• Deaktiver alle funksjoner for lydforbedring på lyd-kilden.</li></ul>
Mikrofonen registrerer ikke lyd	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pass på at du bruker en kompatibel enhet.</li><li>• Koble hodetelefonpluggen godt til hodetelefoninngangen.</li><li>• Pass på at mikrofonåpningen på baksiden av knappen for å besvare/avslutte ikke er blokkert.</li><li>• Prøv en ny telefonsamtale.</li><li>• Prøv en annen enhet.</li></ul>
Enheden reagerer ikke når du trykker på fjernkontrollen (knapp)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Koble hodetelefonkabelen godt til den standard 3,5 mm hodetelefonkontakten på enheten.</li><li>• For flertrykksfunksjoner: Varier hastigheten på trykkene.</li></ul>
Enheden reagerer ikke på fjernkontrollen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Full kontroll er kanskje ikke tilgjengelig for enkelte enheter eller apper.</li></ul>
Øretuppene faller av	<ul style="list-style-type: none"><li>• Feste øretuppene godt til ørepluggen og munnstykke-kroken.</li></ul>
Mistet ørepluggtupp	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontakt Bose for reservetupper.</li></ul>
Lyden er dempet fra ørepluggen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fjerne rusk eller voks fra øretuppene og hodetelefonmunnstykkene.</li><li>• Koble hodetelefonen fra lyd-kilden, og plugg deretter inn på nytt. Pass på at de er godt tilkoblet.</li><li>• Prøv en annen enhet.</li></ul>

# Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Należy uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi i zachować ją w celu użycia w przyszłości.



## OSTRZEŻENIA:

- **NIE WOLNO** korzystać ze słuchawek przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas.
  - Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, ze słuchawek należy korzystać przy komfortowym, średnim poziomie głośności.
  - Przed założeniem słuchawek należy zmniejszyć poziom ich głośności, a następnie stopniowo zwiększać go do momentu osiągnięcia poziomu umożliwiającego komfortowe słuchanie.
- **NALEŻY** zachować ostrożność i zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych i słuchawek, jeżeli słuchawki są używane do wykonywania rozmów telefonicznych podczas prowadzenia pojazdów. W niektórych krajach/regionach obowiązują określone ograniczenia dotyczące używania takich produktów podczas prowadzenia pojazdów, na przykład konieczność korzystania z jednej słuchawki. **NIE WOLNO** używać słuchawek do innego celu podczas prowadzenia pojazdów.
- **NALEŻY** zwracać uwagę na bezpieczeństwo własne oraz innych osób, jeżeli słuchawki są używane podczas wykonywania czynności wymagających uwagi (np. jazda na rowerze lub spacer w pobliżu lokalizacji o dużym natężeniu ruchu samochodowego, placu budowy lub linii kolejowej). Należy zdjąć słuchawki lub dostosować głośność do poziomu umożliwiającego usłyszenie dźwięków dochodzących z zewnątrz, takich jak alarmy i sygnały ostrzegawcze.
- **NIE WOLNO** korzystać z adapterów dla telefonów komórkowych w celu podłączenia słuchawek do gniazda w fotelu samolotu, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała takie jak poparzenia lub uszkodzenie sprzętu spowodowane przegrzaniem.
- W przypadku uczucia wzrostu temperatury lub utraty dźwięku należy **NATYCHMIAST** zdjąć i odłączyć słuchawki.
- **NIE WOLNO** zanurzać urządzenia w wodzie, narażać go na działanie wody przez dłuższy czas ani użytkować podczas uprawiania sportów wodnych, takich jak pływanie, narciarstwo wodne, surfing itp.
- **NIE WOLNO** narażać słuchawek ani akcesoriów na zamknięcie. Narażenie na wilgoć może zwiększyć niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem.
- **NIE NALEŻY** na urządzeniu lub w jego pobliżu umieszczać źródeł otwartego ognia, np. zapalonych świec.



**OSTRZEŻENIE:** Produkt zawiera małe części mogące spowodować zadławienie się. Nie jest on odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.



**OSTRZEŻENIE:** Produkt zawiera elementy magnetyczne. Wszelkie wątpliwości dotyczące wpływu tych elementów na funkcjonowanie implantów medycznych należy skonsultować z lekarzem.



Ten produkt jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi wymogami dyrektywy UE. Pełna treść Deklaracji zgodności jest dostępna w witrynie [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)



Ten symbol oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadkami z gospodarstwa domowego. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling ułatwiają ochronę zasobów naturalnych, ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, skontaktuj się z samorządem lokalnym, z zakładem utylizacji odpadów albo ze sklepem, w którym produkt został nabyty.

## Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków

Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki

Nazwa	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowany bifenylen (PBB)	Polibromowany difenyleoeter (PBDE)
Pochlorowane bifenyleny (PCB)	X	0	0	0	0	0
Części metalowe	X	0	0	0	0	0
Części z tworzyw szt.	0	0	0	0	0	0
Głośniki	X	0	0	0	0	0
Kable	X	0	0	0	0	0

Tę tabelę przygotowano zgodnie z wymaganiami SJ/T 11364.

O: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, która jest zawarta we wszystkich homogenicznych materiałach dla tej części, nie przekracza limitu określonego w normie GB/T 26572.

X: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, która jest zawarta w co najmniej jednym z homogenicznych materiałów użytych dla tej części, przekracza limit określony w normie GB/T 26572.



©2015 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

Słuchawki douszne Bose® SoundTrue® Ultra .....	4
Cechy .....	4
Rozpakowywanie .....	5
Podłączenie do urządzenia .....	6
Używanie słuchawek z urządzeniem.....	6
Elementy sterujące słuchawek.....	6
Podstawowe funkcje.....	7
Funkcje odtwarzania multimedialnych.....	7
Znaczenie właściwego dopasowania.....	8
Dopasowywanie słuchawek do ucha .....	8
Wymiana końcówek .....	9
Wycinanie słuchawek .....	9
Regulacja w celu zapewnienia wygody użytkownika i stabilności.....	10
Korzystanie z klipsa na ubranie.....	10
Korzystanie z jednej słuchawki .....	10
Rozwiązywanie problemów .....	11

Samsung Galaxy jest znakiem towarowym firmy Samsung Electronics Co., Ltd.  
Android to znak towarowy firmy Google Inc.

**Prosimy wpisać i zachować następujące informacje:**

Numery seryjne i modelu znajdują się na oryginalnym opakowaniu kartonowym i karcie gwarancyjnej.

Numer seryjny \_\_\_\_\_

Numer modelu \_\_\_\_\_

Data zakupu \_\_\_\_\_

Zalecamy przechowywanie paragonu sprzedaży wraz z instrukcją obsługi.

# Korzystanie ze słuchawek

---

## Słuchawki douszne Bose® SoundTrue® Ultra

---

Słuchawki douszne Bose® SoundTrue® Ultra zapewniają realistyczny dźwięk i komfort korzystania niedostępny w przypadku większości standardowych słuchawek dousznych.


### Cechy

- Ciesz się muzyką, zanurzając się całkowicie w głębokim i klarownym dźwięku.
- Unikalna technologia TriPort® zapewnia naturalnie brzmiące niskie częstotliwości, nawet przy większej głośności.
- Wbudowany mikrofon i pilot umożliwiają łatwe przełączanie się między muzyką a połączeniami w urządzeniach Samsung Galaxy oraz w wybranych modelach urządzeń z systemem Android.
- Końcówki StayHear® utrzymują słuchawki na swoim miejscu.
- Zaprojektowane i przetestowane pod kątem długotrwałej jakości.
- Pokrowiec ułatwia przenoszenie i chroni słuchawki.
- Dostępny w różnych kolorach, aby dopasować się do Twojego stylu.



## Rozpakowywanie

Ostrożnie rozpakuj opakowanie i upewnij się, że zawiera elementy przedstawione poniżej:




**Uwaga:** Słuchawki są dostarczane z założonymi średnimi (szarymi) końcówkami StayHear® Ultra.

# Korzystanie ze słuchawek

## Podłączenie do urządzenia

Podłącz słuchawki do standardowego złącza słuchawkowego 3,5 mm w urządzeniu.




## Używanie słuchawek z urządzeniem

Słuchawki douszne Bose® SoundTrue® Ultra są dostarczane z wbudowanym mikrofonem i pilotem zdalnego sterowania z trzema przyciskami.

**Uwaga:** Oznaczenie S na tylnym panelu pilota zdalnego sterowania informuje o tym, że te słuchawki są przeznaczone do użytku z urządzeniami Samsung Galaxy i wybranymi urządzeniami z systemem Android. W przypadku niektórych modeli i aplikacji pełne funkcje sterowania mogą nie być dostępne. Aby sprawdzić, czy pilot zdalnego sterowania działa z danym modelem, należy skorzystać z podręcznika użytkownika tego urządzenia.

## Elementy sterujące słuchawek



## Podstawowe funkcje

Zwiększanie głośności	Naciśnij i zwolnij przycisk +.
Zmniejszanie głośności	Naciśnij i puść przycisk -.
Odebranie połączenia	Po nadejściu połączenia naciśnij przycisk odbierania/zakończenia, aby je odebrać.
Zakończenie połączenia	Naciśnij i zwolnij przycisk odbierania/zakończenia połączenia.
Odrzucanie połączenia przychodzącego	Naciśnij przycisk odbierania/zakończenia i przytrzymaj go przez około dwie sekundy, po czym puść.
Przełączanie pomiędzy połączeniem przychodzącym i oczekującym oraz zawieszanie bieżącej rozmowy	Podczas rozmowy naciśnij raz przycisk odbierania/zakończenia. Naciśnij i puść przycisk ponownie, aby przełączyć się na pierwszą rozmowę.
Przełączanie pomiędzy połączeniem przychodzącym i oczekującym oraz kończenie bieżącej rozmowy	Podczas rozmowy naciśnij i przytrzymaj przez około dwie sekundy przycisk odbierania/zakończenia, a następnie go zwolnij.
Używanie sterowania głosem	Naciśnij i przytrzymaj przycisk odbierania/zakończenia.  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sterowania głosem, należy skorzystać z Instrukcji obsługi urządzenia.

## Funkcje odtwarzania multimedialnych

Odtwarzanie lub wstrzymanie odtwarzania utworu lub wideo	Naciśnij i zwolnij przycisk odbierania/zakończenia połączenia.
Przejdź do przodu	Szybko dwukrotnie naciśnij i puść przycisk odbierania/zakończenia.
Przejdź do tyłu	Szybko trzykrotnie naciśnij i puść przycisk odbierania/zakończenia.

# Korzystanie ze słuchawek


## Znaczenie właściwego dopasowania

Dla optymalnego odtwarzania dźwięku ważne jest, aby wybrać końcówki StayHear® Ultra o odpowiedniej wielkości. Wybierając ich rozmiar trzeba zwrócić uwagę na wygodę i dopasowanie w każdym uchu. Aby zdecydować, które najlepiej pasują, można przymierzyć każdy z trzech rozmiarów.

**Uwaga:** Aby sprawdzić, czy pasują, należy spróbować głośno mówić.

Twój głos powinien być przytłumiony w obu uszach. Jeśli tak nie jest, przymierz inny rozmiar końcówek.

Każda końcówka oznaczona jest literą L lub R. Upewnij się, że umieszczasz lewą końcówkę (L) w lewym uchu, a prawą końcówkę (R) w prawym uchu.




## Dopasowywanie słuchawek do ucha

Końcówka StayHear® umożliwi wygodne umieszczenie słuchawki w uchu. Wypustkę pod końcówką należy umieścić pod wypukłością ucha.

### Określanie prawidłowego rozmiaru końcówki:

1. Włóż słuchawkę do ucha, tak, aby końcówka delikatnie opierała się na ujściu kanału słuchowego.
2. Odchyl słuchawkę do tyłu i naciśnij wypustkę pod wypukłością ucha, aż do zamocowania.

Końcówka powinna być dopasowana wygodnie, ale dokładnie do muszli ucha.




## Wymiana końcówek

1. Delikatnie zsuń brzegi końcówki ze słuchawki, uważając aby jej nie rozerwać.

**Przeostroga:** Aby uniknąć uszkodzenia, nie należy ciągnąć za wypustkę końcówki StayHear® Ultra.

2. Ustaw otwór nowej końcówki nad słuchawką, a mały rowek nad zaczepem.
3. Załóż podstawę końcówki wokół podstawy słuchawki, aż do zamocowania końcówki.



## Wyjmowanie słuchawek

Końcówka może ściśle przylegać do wnętrza ucha. Przed wyciągnięciem słuchawek należy za pomocą powolnych ruchów obrotowych stopniowo poluzować słuchawki.

## Korzystanie ze słuchawek

---


### Regulacja w celu zapewnienia wygody użytkowania i stabilności

---

Ustawienie słuchawek można zmienić na kilka sposobów, aby zapewnić komfort i stabilność. Można dostosować sposób noszenia słuchawek przy użyciu suwaka regulacyjnego i klipsa mocującego do odzieży.

#### Korzystanie z klipsa na ubranie

Klips na ubranie umożliwia przymocowanie kabla do ubrania, co zapewnia wygodę użytkowania i stabilność. Jest to pomocne podczas aktywności fizycznej lub w przypadku korzystania tylko z jednej słuchawki.



#### Korzystanie z jednej słuchawki

Słuchawki douszne Bose® SoundTrue® Ultra mogą być używane po włożeniu do ucha tylko prawej (R) słuchawki. Umożliwia to odbieranie połączeń, a jednocześnie słyszenie dźwięków otoczenia.

## Rozwiązywanie problemów

W przypadku problemów dotyczących korzystania ze słuchawek należy skorzystać z poniższych instrukcji.

Problem	Zalecane czynności
Dźwięk przerywany/brak dźwięku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pewnie podłącz kabel słuchawek do złącza słuchawek 3,5 mm w urządzeniu.</li> <li>• Wypróbuj inny rozmiar końcówki.</li> <li>• Użyj innego urządzenia.</li> </ul>
Nadmierna ilość tonów niskich	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyłącz funkcje udoskonalenia dźwięku w źródle dźwięku.</li> </ul>
Mikrofon nie odbiera dźwięku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upewnij się, że używasz zgodnego urządzenia.</li> <li>• Pewnie podłącz wtyczkę słuchawek do gniazda słuchawek.</li> <li>• Sprawdź, czy otwór mikrofonu z tyłu przycisku odbierania/zakończenia nie jest zablokowany.</li> <li>• Wykonaj inne połączenie.</li> <li>• Użyj innego urządzenia.</li> </ul>
Urządzenie nie reaguje na naciśnięcie (przycisku) pilota zdalnego sterowania	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pewnie podłącz kabel słuchawek do złącza słuchawek 3,5 mm w urządzeniu.</li> <li>• Wielokrotne naciskanie przycisków: Zmień szybkość naciskania.</li> </ul>
System nie reaguje na naciskanie przycisków pilota zdalnego sterowania	<ul style="list-style-type: none"> <li>• W przypadku niektórych urządzeń i aplikacji pełne funkcje sterowania mogą nie być dostępne.</li> </ul>
Wypadanie końcówek	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź, czy końcówki są dokładnie przymocowane do słuchawki i zaczeput.</li> </ul>
Zgubienie końcówki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aby uzyskać końcówki zamienne, skontaktuj się z firmą Bose.</li> </ul>
Dźwięk ze słuchawki jest przytłumiony	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuń zanieczyszczenia lub wosk nagromadzony w końcówkach i wnętrzu słuchawek.</li> <li>• Odłącz słuchawki od źródła dźwięku, a następnie dokładnie podłącz je ponownie.</li> <li>• Użyj innego urządzenia.</li> </ul>

# Viktig säkerhetsinformation

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och spara den för att kunna referera till den i framtiden.



## VARNINGAR:

- Använd **INTE** hörlurarna med hög volym under en längre tidsperiod.
  - Du undviker hörselskador om du använder hörlurarna med en bekväm och moderat ljudnivå.
  - Skruva ned volymen på enheten innan du sätter på dig hörlurarna. Skruva sedan upp volymen stegvis tills den når en behaglig nivå.
- Var försiktig** och efterlev gällande lagar beträffande användning av mobiltelefoner och hörlurar om du använder hörlurarna för telefonsamtal i samband med bilkörning. I viss lagstiftning finns det vissa begränsningar för exempelvis användning av den ena hörluren när du framför ett fordon. Använd **INTE** hörlurarna i samband med bilkörning.
- Fokusera** på din och andras säkerhet om du använder hörlurarna när du ägnar dig åt aktiviteter som kräver hela din uppmärksamhet, till exempel när du cyklar eller promenerar i trafiken, vid en byggarbetsplats eller vid en järnväg. Ta av dig hörlurarna så att du hör ljudet från omgivningen, inklusive larm och varningssignaler.
- Använd **INTE** adaptrar avsedda för mobiltelefoner för att ansluta hörlurarna till kontakter vid flygplansstolar, eftersom du då riskerar att drabbas av brännskador eller att föremål skadas på grund av överhettning.
- Ta bort** hörlurarna och koppla från dem omedelbart om de känns varma eller om ljudet försvinner.
- Sänk **INTE** ned hörlurarna i vatten och utsätt dem inte för väta under någon längre period och ha dem inte på dig när du utövar vattensporter, till exempel när du simmar, åker vattenskidor eller surfar.
- Låt **INTE** hörlurarna eller tillbehören bli våta. Om de utsätts för väta ökas risken för eldsvåda eller elektriska stötar.
- Placera **INTE** tända ljus eller andra föremål med öppna lågor på eller i närheten av produkten.



**WARNING!** Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.



**WARNING!** Produkten innehåller magnetiska material. Kontakta din läkare om du har frågor om huruvida produkten kan påverka implanterat av medicinsk enhet.



Den här produkten uppfyller bestämmelserna i alla tillämpliga EU-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på [www.bose.com/compliance](http://www.bose.com/compliance)



Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållsoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

## Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków

Nazwa	Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowany bifenyl (PBB)	Polibromowany difenyleoeter (PBDE)
Policlorowane bifenyle (PCB)	X	0	0	0	0	0
Części metalowe	X	0	0	0	0	0
Części z tworzyw szt.	0	0	0	0	0	0
Głośniki	X	0	0	0	0	0
Kable	X	0	0	0	0	0

Te tabelę przygotowano zgodnie z wymaganiami SJ/T 11364.

O: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, która jest zawarta we wszystkich homogenicznych materiałach dla tej części, nie przekracza limitu określonego w normie GB/T 26572.

X: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, która jest zawarta w co najmniej jednym z homogenicznych materiałów użytych dla tej części, przekracza limit określony w normie GB/T 26572.





Om dina Bose® SoundTrue® Ultra in-ear-hörlurar .....	4
Funktioner .....	4
Uppackning.....	5
Ansluta till enheten .....	6
Använda hörlurarna med din enhet.....	6
Kontroller på hörlurarna .....	6
Basfunktioner.....	7
Funktioner för medieuppspelning .....	7
Vikten av god passform .....	8
Anpassa hörlurarna till örat .....	8
Byta öronproppar .....	9
Ta bort hörlurarna: .....	9
Anpassa så att de sitter bekvämt och stabilt .....	10
Använda klämman .....	10
Använda den ena hörluren .....	10
Felsökning.....	11

Samsung Galaxy är ett varumärke som tillhör Samsung Electronics Co., Ltd.  
Android är ett varumärke som tillhör Google Inc.

**Fyll i uppgifterna och håll reda på var du förvarar dem:**

Serienummer och modellnummer hittar du på originalförpackningen och på garantikortet.

Serienummer \_\_\_\_\_

Modellnummer \_\_\_\_\_

Inköpsdatum \_\_\_\_\_

Vi föreslår att du sparar inköpskvittot tillsammans med den här bruksanvisningen.

# Använda hörlurarna

---

## Om dina Bose® SoundTrue® Ultra in-ear-hörlurar

---


Dessa Bose® SoundTrue™ in-ear-hörlurar ger en levande ljudbild och samtidigt en bekvämare passform än de flesta konventionella hörlurar.

### Funktioner

- Njut av musiken med ett djupt, tydligt och fylligt omslutande ljud.
- Den exklusiva TriPort®-tekniken ger ett naturligt ljud, även vid höga volymer.
- Inline-mikrofon och fjärrkontroll för att enkelt växla mellan samtal och musik på din Samsung Galaxy-enhet eller annan Android-enhet.
- StayHear®-snäckorna håller hörlurarna bekvämt på plats.
- Utvecklade och testade för bestående kvalitet och hållbarhet.
- Fodralet används för att förvara och skydda hörlurarna.
- Tillgänglig i olika färger för att passa din stil.

## Uppackning

Packa försiktigt upp kartongen och kontrollera att följande delar finns med:



**Obs!** Hörlurarna levereras med de mellanstora (grå) StayHear®-propparna fastsatta.


## Använda hörlurarna

---

### Ansluta till enheten

---

Anslut hörlurarna till den vanliga 3,5 mm kontakten på din enhet.




### Använda hörlurarna med din enhet

---

Bose® SoundTrue® in-ear-hörlurar levereras med en inline-mikrofon och fjärrkontroll med tre knappar på sladden.

**Obs!** S-märkningen på baksidan av fjärrkontrollen visar att dessa hörlurar är avsedda för Samsung Galaxy-enheter och andra Android-enheter. Full kontroll kanske inte är tillgänglig för alla modeller eller alla appar. Se bruksanvisningen för din enhet om fjärrkontroller fungerar med din modell.

### Kontroller på hörlurarna



## Basfunktioner

Höja volymen	Tryck och släpp upp +-knappen.
Minska volymen	Tryck och släpp upp - -knappen.
Besvara ett samtal	När någon ringer till dig trycker du på svara/avsluta-knappen för att besvara samtalet.
Avsluta ett samtal	Tryck och släpp upp svara/avsluta-knappen.
Avvisa inkommande samtal	Tryck och håll ned svara/avsluta-knappen i cirka två sekunder innan du släpper upp den.
Växla till ett inkommande samtal eller ett parkerat samtal, och parkera aktuellt samtal	Tryck och håll ned svara/avsluta-knappen en gång under pågående samtal. Tryck och släpp upp en gång för att gå tillbaka till föregående samtal.
Växla till ett inkommande samtal eller ett parkerat samtal och avsluta aktuellt samtal	Tryck och håll ned svara/avsluta-knappen i cirka två sekunder i pågående samtal innan du släpper upp knappen.
Använda röstkommandon	Tryck och håll ned svara/avsluta-knappen. Mer information om röstkommandon finns i bruksanvisningen för din enhet.

## Funktioner för medieuppspelning

Spela upp eller pausa ljudspår och video	Tryck och släpp upp svara/avsluta-knappen.
Hoppa framåt	Tryck och släpp upp svara/avsluta-knappen två gånger snabbt.
Hoppa bakåt	Tryck och släpp upp svara/avsluta-knappen tre gånger snabbt.


# Använda hörlurarna

## Vikten av god passform

För att få bra ljudprestanda är det viktigt att välja rätt storlek för StayHear® Ultra-proppen. Välj den storlek som ger bästa komfort och som passar bäst i örat. Du kanske behöver prova alla tre storlekarna för att kunna bestämma vilken som passar bäst.

**Obs!** Du kan testa hur de passar genom att tala högt. Ljudet ska upplevas dämpat i båda öronen. Om inte, ska du välja en annan storlek.

Varje propp är märkt antingen med ett L eller ett R. Sätt in proppen märkt med L i det vänstra örat och den märkt med R i det högra.




## Anpassa hörlurarna till örat

StayHear®-proppen gör att luren vilar bekvämt i örat. Vingen på öronproppen anpassas perfekt mot kanten i ytterörat.

### Så här kontrollerar du att öronproppen har rätt storlek:


1. För in hörluren i örat så att proppen vilar lätt i öronkanalen.
2. Luta hörluren bakåt och tryck fast vingen under kanten vid ytterörat så att den sitter fast.

Propparna ska sitta bekvämt och säkert i örat.



## Byta öronproppar

1. Ta försiktigt av öronproppen från spetsen på hörluren, men var försiktig så att inte spetsen får några märken.  
**Tänk på:** Du förhindrar skador genom att inte dra i vingen på StayHear® Ultra-proppen.
2. Placera hålet på den nya öronproppen över munstycket och den lilla delen över haken.
3. Tryck ner öronproppen runt basen på hörluren så att den sitter fast.



## Ta bort hörlurarna:

Proppen kan sitta tätt i örat. Använd en långsam vridrörelse för att gradvis få luren att släppa innan du tar bort den.

## Använda hörlurarna

---


### Anpassa så att de sitter bekvämt och stabilt

---

Det finns flera olika sätt att justera hörlurarna så att de sitter bekvämt och stabilt. Med hjälp av glidremmen och klämman kan du anpassa hur du vill bära hörlurarna.

#### Använda klämman

Använd klämman för att sätta fast sladden i dina kläder så att det blir enklare att hantera sladden. Detta kan vara till stor hjälp om du rör dig mycket eller när du bara använder den ena hörluren.



#### Använda den ena hörluren

Du kan även välja att endast använda den högra (R) Bose® SoundTrue®-hörluren. Detta gör det enklare att ta emot samtal och samtidigt höra ljudet omkring dig.



## Felsökning

Se felsökningsanvisningarna i tabellen nedan om du får problem med att använda hörlurarna.

Problem	Åtgärd
Inget ljud/svajande ljud	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anslut hörlurskabeln till 3,5 mm hörlurskontakten på enheten.</li> <li>• Prova med en annan storlek.</li> <li>• Prova med en annan enhet.</li> </ul>
För kraftig bas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stäng av eventuella ljudförstärkningsfunktioner på ljudkällan.</li> </ul>
Mikrofonen tar inte upp något ljud	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att du använder en kompatibel enhet.</li> <li>• Kontrollera att hörlurskontakten är helt intryckt i hörlursingången.</li> <li>• Kontrollera att mikrofonöppningen på baksidan av svara/avsluta-knappen inte är blockerad.</li> <li>• Prova med att göra ytterligare ett telefonsamtal.</li> <li>• Prova med en annan enhet.</li> </ul>
Enheten svarar inte när fjärrkontrollsknapparna trycks ned	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anslut hörlurskabeln till 3,5 mm hörlurskontakten på enheten.</li> <li>• För flertrycksfunktioner: Variera hastigheten på tryckningarna.</li> </ul>
Enheten svarar inte på fjärrkontrollskommandon	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Full kontroll kanske inte är tillgänglig för alla enheter eller alla appar.</li> </ul>
Öronsnäckorna ramlar av	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sätt fast öronpropparna på hörluren och haken vid munstycket.</li> </ul>
Tappat bort öronsnäckan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontakta Bose om du behöver nya proppar.</li> </ul>
Ljudet är dovt i hörlurarna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ta bort smuts eller öronvax från öronproppen och luren munstycke.</li> <li>• Ta bort hörlurarna från ljudkällan och sätt sedan tillbaka dem för att vara säker på att de sitter som de ska.</li> <li>• Prova med en annan enhet.</li> </ul>

# ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้อย่างรอบคอบและเก็บรักษาไว้สำหรับการอ้างอิงในภายหลัง



## คำเตือน:

- อย่าใช้หูฟังที่ระดับเสียงดังมากเป็นระยะเวลานาน
  - เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการได้ยินบกพร่อง ใช้หูฟังของคุณในระดับเสียงปานกลางและเหมาะสม
  - ลดระดับเสียงบนอุปกรณ์ของคุณลงก่อนเสียบหูฟังที่หูของคุณ จากนั้น เพิ่มระดับเสียงทีละนิดจนกระทั่งคุณได้ยินระดับเสียงที่เหมาะสมสำหรับการฟัง
- ให้ใช้งานด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้โทรศัพท์มือถือและหูฟังหากใช้หูฟังนี้เพื่อโทรศัพท์ระหว่างการขับขี่ บางพื้นที่อาจกำหนดข้อจำกัดเฉพาะ เช่น การกำหนดให้ใช้หูฟังเพียงข้างเดียวเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นั้นขณะขับรถ ไม่ใช้หูฟังนี้เพื่อจุดประสงค์อื่นในระหว่างการขับขี่
- ให้ความสนใจในความปลอดภัยของตัวเองและของบุคคลอื่นหากคุณใช้หูฟังในขณะที่ทำกิจกรรมใดๆ ที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ ระหว่างขับขี่จักรยานหรือเดิน หรืออยู่ใกล้ถนน สถานที่ก่อสร้าง หรือรางรถไฟ ฯลฯ ถอดหูฟังหรือปรับระดับเสียงให้เบาลงเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถได้ยินเสียงแวดล้อม รวมถึงเสียงเตือนภัยและสัญญาณแจ้งเตือนเตือน
- ไม่ใช่อะแดปเตอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับช่องเสียบ ณ ที่นั่งบนเครื่องบิน เพราะอาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บ เช่น ฝ่ามือ หรืออุปกรณ์เสียหายเนื่องจากความร้อนจัด
- ให้ถอดหูฟังและตัดการเชื่อมต่อในทันที หากคุณรู้สึกถึงความร้อน หรือสัญญาณเสียงขาดหายไป
- อย่าจุ่มน้ำหรือวางอยู่ในที่โล่งใกล้น้ำเป็นเวลานาน หรือสวมหูฟังในขณะที่เล่นกีฬาทางน้ำ เช่น ว่ายน้ำ สกีน้ำ กระดานโต้คลื่น ฯลฯ
- อย่าปล่อยให้หูฟังหรืออุปกรณ์เสริมเปียก การสัมผัสกับความชื้นอาจเพิ่มความเสี่ยงจากการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟดูด
- อย่าวางสิ่งที่คุณไม่ได้อ่าน เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไว้บนหรือใกล้กับผลิตภัณฑ์



คำเตือน: ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็ก ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายจากการสำลัก ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี



คำเตือน: ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก โปรดติดต่อแพทย์ หากคุณสงสัยว่าสิ่งนี้อาจส่งผลต่อการใช้งานอุปกรณ์การแพทย์ที่ปลูกถ่ายของคุณหรือไม่



ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดกับ EU Directive ที่ใช้บังคับทั้งหมด ประกาศฉบับสมบูรณ์นี้เกี่ยวกับความสอดคล้องสามารถอ่านได้จาก [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)



สัญลักษณ์นี้หมายความว่าไม่ว่าทั้งผลิตภัณฑ์นี้เหมือนเป็นขยะตามบ้านทั่วไป และควรจัดการทิ้งให้กับสถานจัดเก็บขยะที่เหมาะสมเพื่อการนำไปรีไซเคิล การจัดการทิ้งและการใช้เคลือบอย่างเหมาะสมช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้งและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ ให้ติดต่อเทศบาลในท้องถิ่นของคุณ บริการกำจัดขยะ หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้

ชื่อและปริมาณสารหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย						
สารและองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย						
ชื่อชิ้นส่วน	ตะกั่ว (Pb)	ปรอท (Hg)	แคดเมียม (Cd)	โครเมียม 6 (CR(VI))	โพลีโบรมิเนเตดไบเฟนิล (PBB)	โพลีโบรมิเนเตดไดฟีนิลอีเธอร์ (PBDE)
PCBs	X	0	0	0	0	0
ชิ้นส่วนโลหะ	X	0	0	0	0	0
ชิ้นส่วนพลาสติก	0	0	0	0	0	0
ลำโพง	X	0	0	0	0	0
สาย	X	0	0	0	0	0
ตารางนี้ได้รับการจัดเตรียมตามระเบียบแก้ไขปรับปรุงของ SJ/T 11364 O: หมายความว่าสารอันตรายดังกล่าวนี้ที่อยู่ในวัสดุทั้งหมดที่เป็นเนื้อเดียวกันสำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณต่ำกว่าข้อกำหนดขีดจำกัดใน GB/T 26572 X: หมายความว่าสารอันตรายดังกล่าวนี้อยู่ในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งชั้นที่ใช้สำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณสูงกว่าข้อกำหนดขีดจำกัดใน GB/T 26572						

©2015 Bose Corporation ห้ามทำซ้ำ แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ หรือนำไปใช้งานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษร

เกี่ยวกับหูฟัง Bose® SoundTrue® Ultra in-ear ของคุณ.....	4
สิ่งที่บรรจุในกล่อง .....	5
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ .....	6
การใช้หูฟังกับอุปกรณ์ของคุณ.....	6
ส่วนควบคุมหูฟัง.....	6
ฟังก์ชันพื้นฐาน.....	7
ฟังก์ชันการเล่นสื่อ .....	7
ข้อมูลสำคัญเพื่อการสวมใส่อย่างเหมาะสม .....	8
การสวมชุดหูฟังกับหูของคุณ.....	8
การเปลี่ยนจุดสวมหูฟัง .....	9
การถอดหูฟัง.....	9
การปรับเพื่อความสะอาดสบายและมั่นคง.....	10
การใช้คิลิปหนีบติดสื่อ.....	10
การใช้หูฟังเดี่ยว .....	10
การแก้ปัญหา .....	11

Samsung Galaxy เป็นเครื่องหมายการค้าของ Samsung Electronics Co., Ltd.  
 Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

## โปรดกรอกข้อมูลและเก็บไว้เป็นบันทึกของคุณ:

คุณสามารถพบหมายเลขซีเรียลและหมายเลขรุ่นใต้บนกล่องบรรจุตั้งเดิมและบัตรรับประกัน

หมายเลขซีเรียล \_\_\_\_\_

หมายเลขรุ่น \_\_\_\_\_

วันที่ซื้อ \_\_\_\_\_

ขอแนะนำให้คุณเก็บใบเสร็จรับเงินไว้กับคู่มือผู้ใช้

# การใช้หูฟัง

---

## เกี่ยวกับหูฟัง Bose® SoundTrue® Ultra in-ear ของคุณ

---


หูฟัง Bose® SoundTrue® Ultra in-ear นำเสนอประสิทธิภาพเสียงที่สมจริงและการสวมใส่ที่สะดวกสบายที่ไม่สามารถพบได้จากหูฟังแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่

### คุณสมบัติ

- เพลิดเพลินกับเสียงเพลงที่กระจ่างใส นุ่มลึก และเต็มเปี่ยมด้วยพลัง
- เทคโนโลยี TriPort® เอกสิทธิ์เฉพาะจะส่งมอบคุณภาพเสียงที่เป็นธรรมชาติ แม้ในระดับเสียงที่สูงขึ้น
- ไมโครโฟนในตัวและรีโมทเพื่อการสลับที่ง่ายดวยระหว่างโหมดการใช้งานโทรศัพท์และการฟังเพลงด้วยอุปกรณ์ Samsung Galaxy และอุปกรณ์ Android บางรุ่นได้อย่างสะดวก
- จุกสวมหูฟัง StayHear® ช่วยให้หูฟังอยู่ในตำแหน่งที่คุณสวมใส่สบาย
- สร้างและผ่านการทดสอบเพื่อคุณภาพและความทนทานที่คงอยู่เป็นระยะเวลานาน
- เคสแบบพกพาช่วยเก็บรักษาและปกป้องหูฟัง
- มีให้เลือกหลายสีเพื่อให้เหมาะกับสไตล์ของคุณ

## สิ่งที่บรรจุในกล่อง

เปิดกล่องบรรจุอย่างระมัดระวังและตรวจสอบว่าคุณได้รับอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบถ้วน:




หมายเหตุ: หูฟังมาพร้อมกับจุกสวมหูฟัง StayHear® Ultra ขนาดกลาง (สีเทา)

# การใช้หูฟัง

## การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

เชื่อมต่อหูฟังกับช่องเสียบหูฟังมาตรฐาน 3.5 มม. บนอุปกรณ์เสียงของคุณ




## การใช้หูฟังกับอุปกรณ์ของคุณ

หูฟัง Bose® SoundTrue® Ultra in-ear มาพร้อมกับไมโครโฟนในตัวและรีโมทแบบ 3 ปุ่ม

หมายเหตุ: ตัวอักษร S ที่อยู่ด้านหลังของรีโมทหมายความว่าหูฟังเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับใช้กับอุปกรณ์ Samsung Galaxy และอุปกรณ์ Android บางรุ่นได้ การควบคุมอย่างครบถ้วนอาจไม่สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์หรือแอปพลิเคชันบางรุ่น โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ของคุณเพื่อดูว่ารีโมททำงานกับรุ่นที่คุณใช้อยู่หรือไม่

## ส่วนควบคุมหูฟัง



## ฟังก์ชันพื้นฐาน

เพิ่มระดับเสียง	กดปุ่ม + และปล่อย
ลดระดับเสียง	กดปุ่ม - และปล่อย
รับสาย	เมื่อคุณรับสายเรียกเข้า กดปุ่มรับสาย/วางสายเพื่อรับสายนั้น
วางสาย	กดและปล่อยปุ่มรับสาย/วางสาย
ปฏิเสธสายเรียกเข้า	กดปุ่มรับสาย/วางสายค้างไว้ประมาณ 2 วินาทีแล้วปล่อย
สลับไปยังสายเรียกเข้าหรือสายที่ปักอยู่ และพักสายที่ใช้อยู่	ในขณะที่ใช้สาย กดและปล่อยปุ่มรับสาย/วางสายครั้งเดียว กดและปล่อยอีกครั้งเพื่อสลับกลับไปยังสายแรก
สลับไปยังสายเรียกเข้าหรือพักสาย และวางสายที่ใช้อยู่	ในขณะที่ใช้สาย กดปุ่มรับสาย/วางสายค้างไว้ประมาณ 2 วินาทีแล้วปล่อย
ใช้การควบคุมด้วยเสียง	กดปุ่มรับสาย/วางสายค้างไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบควบคุมด้วยเสียง โปรดอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์

## ฟังก์ชันการเล่นสื่อ

เล่นหรือหยุดเพลงหรือวิดีโอชั่วคราว	กดและปล่อยปุ่มรับสาย/วางสาย
ข้ามไปข้างหน้า	กดและปล่อยปุ่มรับสาย/วางสายเร็วๆ 2 ครั้ง
ข้ามย้อนกลับ	กดและปล่อยปุ่มรับสาย/วางสายเร็วๆ 3 ครั้ง


# การใช้หูฟัง

## ข้อมูลสำคัญเพื่อการสวมใส่อย่างเหมาะสม

เพื่อประสิทธิภาพเสียงที่เหมาะสมที่สุด สิ่งสำคัญคือต้องเลือกจุกสวมหูฟัง StayHear® Ultra ขนาดที่เหมาะสม เลือกขนาดที่คุณใส่แล้วสบายและกระชับกับหูแต่ละข้างได้ดีที่สุด คุณอาจจะต้องลองใส่ทั้งสามขนาดเพื่อดูความกระชับที่ดีที่สุด

**หมายเหตุ:** เพื่อทดสอบความกระชับ ลองพูดเสียงดังๆ เสียงของคุณควรจะดังอยู่ในหูทั้งสองข้าง หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้เลือกจุกสวมหูขนาดอื่น

จุกสวมหูฟังแต่ละข้างจะมีเครื่องหมาย L หรือ R อย่างใดอย่างหนึ่ง โปรดแน่ใจว่าจุกสวมหูฟังข้างซ้าย (L) ตรงกับชิ้นส่วนหูฟังข้างซ้าย และจุกสวมหูฟังข้างขวา (R) ตรงกับชิ้นส่วนหูฟังข้างขวา




## การสวมชุดหูฟังกับหูของคุณ

จุกสวมหูฟัง StayHear® ช่วยให้สวมใส่ได้อย่างสบายเข้ากับช่องหูของคุณ ส่วนปีกของจุกสวมหูฟังจะเหมาะเจาะพอดีกับรอยหยักที่ใบหูของคุณ

เมื่อต้องการดูว่าจุกสวมหูฟังมีขนาดที่เหมาะสมหรือไม่


1. สอดหูฟังเข้าไปในหูโดยให้จุกสวมหูฟังวางอยู่ในช่องหูอย่างนุ่มนวล
2. เอียงหูฟังออก และกดส่วนปีกของจุกสวมหูฟังให้อยู่ได้รอยหยักของหูจนกระทั่งแน่นดี  
จุกสวมหูฟังควรใส่ได้อย่างให้ความรู้สึกสบายและพอดีในช่องหูของคุณ





## การเปลี่ยนจุกสวมหูฟัง

1. ค่อยๆ ดึงตรงขอบของจุกสวมหูฟังที่แนบอยู่ออกจากหูฟัง ระวังอย่าให้จุกสวมหูฟังฉีกขาด  
ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหาย อย่าดึงที่ส่วนปีกของจุกสวมหูฟัง StayHear® Ultra
2. จัดวางให้ส่วนเปิดของจุกสวมหูฟังใหม่ครอบเหนือกระบอกหูฟัง และช่องเสียบขนาดเล็กอยู่บน  
ขอเกี่ยวของกระบอกหูฟัง
3. ค่อยๆ ดันส่วนฐานของจุกสวมหูฟังลงที่ส่วนฐานของหูฟัง จนกระทั่งรู้สึกว่าจุกสวมหูฟังติดกับ  
หูฟังแน่นหนาดี



## การถอดหูฟัง

จุกสวมหูฟังอาจยึดติดแน่นภายในหู ค่อยๆ บิดจุกสวมหูฟังที่ละลายจนกระทั่งหลุดออกก่อนถอดหูฟัง


# การใช้หูฟัง

## การปรับเพื่อความสะดวกสบายและมั่นคง

มีหลายวิธีที่คุณสามารถเปลี่ยนหูฟังของคุณเพื่อให้ความสะดวกสบายและมั่นคงยิ่งขึ้น คุณสามารถปรับลักษณะการสวมหูฟังได้โดยใช้ตัวเลื่อนปรับตำแหน่งและคลิปหนีบติดเสื้อ

### การใช้คลิปหนีบติดเสื้อ

ใช้คลิปหนีบติดเสื้อเพื่อยึดสายชุดหูฟังกับเสื้อของคุณ เพื่อความสะดวก มั่นคง และช่วยในการจัดการสายชุดหูฟัง อุปกรณ์นี้มีประโยชน์ระหว่างกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวสูง หรือเมื่อใช้หูฟังในรูปแบบหูฟังเดี่ยว



### การใช้หูฟังเดี่ยว

หูฟัง Bose® SoundTrue® Ultra in-ear สามารถใช้โดยให้มีเพียงหูฟังด้านขวา (R) อยู่ในหูเพียงข้างเดียวได้ ช่วยให้ได้รับสายโดยที่ยังได้ยินเสียงรอบข้าง

## การแก้ปัญหา

หากคุณประสบปัญหาใดๆ ในการใช้ชุดหูฟังของคุณ โปรดลองปฏิบัติตามการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้

ปัญหา	สิ่งที่ต้องทำ
ไม่มีเสียง/เสียงขาดๆ หายๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>เชื่อมต่อสายเคเบิลหูฟังกับช่องเสียบหูฟังขนาดมาตรฐาน 3.5 มม. บนอุปกรณ์ของคุณให้แน่นหนา</li> <li>ลองใช้จุกหูฟังขนาดอื่น</li> <li>ลองใช้อุปกรณ์อื่น</li> </ul>
เสียงทึบมากไป	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปิดคุณสมบัติเพิ่มประสิทธิภาพเสียงที่แหล่งเสียง</li> </ul>
ไมโครโฟนไม่รับเสียง	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันร่วมกันได้</li> <li>เสียบปลั๊กหูฟังกับช่องสัญญาณหูฟังอย่างแน่นหนา</li> <li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องเปิดของไมโครโฟนที่ด้านหลังปุ่มรับสาย/วางสายไม่ได้ถูกปิดกั้น</li> <li>ลองโทรออกใหม่</li> <li>ลองใช้อุปกรณ์อื่น</li> </ul>
อุปกรณ์ไม่ตอบสนองต่อการกดรีโมท (ปุ่ม)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เชื่อมต่อสายเคเบิลหูฟังกับช่องเสียบหูฟังขนาดมาตรฐาน 3.5 มม. บนอุปกรณ์ของคุณให้แน่นหนา</li> <li>สำหรับฟังก์ชันกดหลายครั้ง: ใช้ความเร็วการกดที่ต่างกัน</li> </ul>
อุปกรณ์ไม่ตอบสนองต่อรีโมท	<ul style="list-style-type: none"> <li>การควบคุมอย่างครบถ้วนอาจไม่สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันบางรุ่น</li> </ul>
จุกสวมหูฟังหลุดออก	<ul style="list-style-type: none"> <li>ติดตั้งจุกสวมหูฟังเข้ากับส่วนหูฟังและกระบอกหูฟังอย่างแน่นหนา</li> </ul>
จุกสวมหูฟังหาย	<ul style="list-style-type: none"> <li>ติดต่อ Bose สำหรับจุกสวมหูฟังที่ใช้เปลี่ยนแทน</li> </ul>
เสียงจากหูฟังไม่ชัดเจน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทำความสะอาดฝุ่นผงหรือขี้หูในจุกสวมหูฟังและกระบอกหูฟังออกทั้งหมด</li> <li>ถอดหูฟังออกจากแหล่งเสียงนั้น แล้วเสียบกลับอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อแน่นดี</li> <li>ลองใช้อุปกรณ์อื่น</li> </ul>

# 중요 안전 정보

이 사용자 안내서를 주의하여 읽고 향후 참조를 위해 보관하십시오.



**경고:**

- 오랫동안 큰 볼륨으로 헤드폰을 **사용하지 마십시오.**
  - 청력 손상을 피하려면 편안한 중간 볼륨으로 헤드폰을 사용하십시오.
  - 헤드폰을 귀에 착용하기 전에 장치에서 볼륨을 줄인 후 편안한 청취 수준으로 서서히 볼륨을 올리십시오.
- 운전 중 전화 통화를 위해 헤드폰을 사용하는 경우 주의를 기울이고 모바일 전화 및 헤드폰에 관해 적용되는 **법률을 따르십시오.** 일부 지역에서 운전 중에는 한쪽 이어피스를 사용해야 하는 등, 제품 사용에 대한 특정 제한 사항이 부과될 수 있습니다. 운전 중에는 헤드폰을 절대 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 예를 들어 자전거를 타거나 교통, 건설 현장 또는 철로 근처에서 걷는 등, 사용자의 주의를 필요로 하는 행동을 하는 동안 헤드폰을 사용할 경우 반드시 사용자의 안전과 타인의 안전에 집중하십시오. 헤드폰을 벗거나 노이즈 캔슬링을 끈 상태로 헤드폰을 사용하고, 경보와 경고 신호를 포함한 주변 소리를 들을 수 있을 정도로 **볼륨을 조정하십시오.**
- 열로 인해 화상이나 재산상의 손해 등 인적 손해가 발생할 수 있으니, 휴대폰 어댑터를 헤드폰과 항공기 좌석 잭에 연결하여 **사용하지 마십시오.**
- 따뜻하게 느껴지거나 오디오가 손실될 경우 **즉시 벗으십시오.**
- 헤드폰을 물에 담그거나 잠시간 동안 물에 노출하지 마십시오. 수영, 수상스키, 서핑 등 해상 스포츠 활동 중에는 **착용하지 마십시오.**
- 헤드폰 또는 액세서리가 **젖지 않도록 하십시오.** 습기에 노출되면 화재 또는 감전 위험이 증가할 수 있습니다.
- 촛불과 같은 무방비 상태의 불꽃을 제품 위나 근처에 **두지 마십시오.**



**경고:** 질식 위험이 발생할 수 있는 소형 부품을 포함하고 있습니다. 3세 이하의 어린이가 사용하기에 부적합합니다.



**경고:** 이 제품에는 자석 재질이 포함되어 있습니다. 사용자 몸에 이식한 의료 기기의 작동에 어떤 영향이 있는지에 관해 질문이 있을 경우 의사에게 문의하십시오.



이 제품은 적용되는 모든 EU 지침서 요구사항을 준수합니다. 표준 부합 신고서 전문은 [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)를 참조하십시오.



이 표시는 제품을 가정용 쓰레기처럼 폐기해서는 안 되며 적합한 수거 시설에 보내 재생해야 함을 의미합니다. 올바른 폐기와 재생을 통해 천연 자원, 인류 건강 및 환경을 보호하는 데 일조할 수 있습니다. 이 제품의 폐기 및 재생에 대한 자세한 정보는 지방 자치체, 폐기물 수거 업체 또는 이 제품을 구입한 매장에 문의하십시오.

유해 물질의 명칭 및 농도						
유해 물질						
부품 번호	납(Pb)	수은(Hg)	카드뮴(Cd)	6가 크롬(VI)	폴리브롬화 바이페닐(PBB)	폴리브롬화 디페닐에테르(PBDE)
폴리염화 바이페닐(PCB)	X	0	0	0	0	0
금속 부품	X	0	0	0	0	0
플라스틱 부품	0	0	0	0	0	0
스피커	X	0	0	0	0	0
케이블	X	0	0	0	0	0
본 테이블은 SJ/T 11364 조항에 따라 준비되었습니다. O: 이 부품의 모든 동종 재질에 함유된 언급된 유해 물질이 GB/T 26572의 제한 요구사항 미만임을 나타냅니다. X: 이 부품에 사용된 동종 재질 중 최소 하나에 함유된 언급된 유해 물질이 GB/T 26572의 제한 요구사항을 초과함을 나타냅니다.						

©2015 Bose Corporation. 사전 서면 승인 없이 본 설명서의 특정 부분을 복제, 변경, 배포 또는 사용할 수 없습니다.

Bose® SoundTrue® Ultra 인-이어 헤드폰에 관하여 .....	4
특징 .....	4
제품 개봉 .....	5
장치 연결 .....	6
장치에 헤드폰 사용 .....	6
헤드폰 컨트롤 .....	6
기본 기능 .....	7
미디어 재생 기능 .....	7
올바른 착용의 중요성 .....	8
헤드폰 착용 .....	8
이어팁 교환 .....	9
헤드폰 제거 .....	9
편안하게 잘 고정되도록 조정 .....	10
클립 사용 .....	10
단일 이어피스 사용 .....	10
문제 해결 .....	11

Samsung Galaxy는 Samsung Electronics Co., Ltd.의 상표입니다.  
Android는 Google Inc.의 상표입니다.

## 기록용으로 작성하여 보관하십시오.

일련 번호와 모델 번호는 원래 포장 상자와 보증 카드에서 찾을 수 있습니다.

일련 번호 \_\_\_\_\_

모델 번호 \_\_\_\_\_

구입일 \_\_\_\_\_

영수증을 사용자 안내서와 함께 보관하십시오.

# 헤드폰 사용

---

## Bose® SoundTrue® Ultra 인-이어 헤드폰에 관하여

---


Bose® SoundTrue® Ultra 인-이어 헤드폰은 대개의 기존 헤드폰에서 얻지 못하는 생생한 오디오 성능과 편안한 착용감을 동시에 제공합니다.

### 특징

- 깊고 명료한 완전 몰입형 사운드로 음악을 재생합니다.
- 독점 TriPort® 기술이 큰 볼륨에서도 자연스러운 저음을 제공합니다.
- 인라인 마이크와 리모콘을 사용하여 Samsung Galaxy 장치 및 엄선한 Android 장치에서 통화와 음악 사이를 쉽게 전환할 수 있습니다.
- StayHear® 팁이 헤드폰을 편안하게 고정시켜 줍니다.
- 오래가는 품질과 내구성을 위해 설계 및 테스트되었습니다.
- 휴대용 케이스는 헤드폰을 보관하고 보호합니다.
- 사용자 스타일에 맞게 여러 색상으로 제공됩니다.

## 제품 개봉

조심스럽게 포장을 풀고 다음 부품이 있는지 확인합니다.




**참고:** 헤드폰에는 중형(회색) StayHear® Ultra 팁이 부착되어 제공됩니다.

# 헤드폰 사용

## 장치 연결

헤드폰을 장치의 표준 3.5mm 헤드폰 커넥터에 연결합니다.




## 장치에 헤드폰 사용

Bose® SoundTrue® Ultra 인-이어 헤드폰에는 인라인 마이크와 3 버튼 리모콘이 제공됩니다.

**참고:** 리모콘 뒷면의 S 표시는 본 헤드폰이 Samsung Galaxy 및 엄선한 Android 장치를 위해 디자인되었음을 나타냅니다. 일부 모델 또는 응용 프로그램의 경우 모든 조작이 가능하지 않을 수도 있습니다. 리모콘이 사용자 소유 모델에 잘 작동하는지 확인하려면 장치 사용자 안내서를 참조하십시오.

## 헤드폰 컨트롤





## 기본 기능

볼륨 올리기	+ 버튼을 눌렀다 놓습니다.
볼륨 내리기	- 버튼을 눌렀다 놓습니다.
전화 수신	전화가 걸려 오면 통화/종료 버튼을 눌러 전화를 받습니다.
통화 종료	통화/종료 버튼을 눌렀다 놓습니다.
걸려오는 전화 거부	통화/종료 버튼을 약 2초 간 길게 눌렀다 놓습니다.
걸려온 또는 보류 중인 통화로 전환하고 현재 통화를 보류	통화 중에 통화/종료 버튼을 한 번 눌렀다 놓습니다. 다시 눌렀다 놓으면 첫 번째 통화로 전환됩니다.
걸려온 또는 보류 중인 통화로 전환하고 현재 통화를 종료	통화 중에 통화/종료 버튼을 약 2초 간 길게 눌렀다 놓습니다.
음성 제어 사용	통화/종료 버튼을 길게 누릅니다. 음성 제어에 대한 자세한 정보는 장치 사용자 안내서를 참조하십시오.

## 미디어 재생 기능

노래 또는 비디오 재생 또는 일시 중지	통화/종료 버튼을 눌렀다 놓습니다.
앞으로 건너뛰기	통화/종료 버튼을 빠르게 두 번 눌렀다 놓습니다.
뒤로 건너뛰기	통화/종료 버튼을 빠르게 세 번 눌렀다 놓습니다.

# 헤드폰 사용

## 올바른 착용의 중요성

최적의 오디오 성능을 위해 올바른 크기의 StayHear® Ultra 팁을 선택하는 것이 중요합니다. 각 귀에 가장 편안하게 맞는 크기를 선택하십시오. 세 가지 모든 크기를 시도해보고 나서 가장 잘 맞는 것을 결정하는 것이 좋습니다.

**참고:** 착용성을 테스트하려면 큰 소리로 말해 보십시오. 양쪽 귀에 목소리가 줄어서 들려야 합니다. 그렇지 않을 경우 다른 크기의 팁을 선택하십시오.

각 팁에는 L(왼쪽) 또는 R(오른쪽) 표시가 있습니다. 왼쪽 팁(L)은 왼쪽 이어피스에, 오른쪽 팁(R)은 오른쪽 이어피스에 부착하십시오.




## 헤드폰 착용

StayHear® 팁으로 인해 이어피스가 귀 안에 편안하게 놓입니다. 팁의 날개 부분은 귀이랑 바로 아래 끼워집니다.

### 팁이 올바른 크기인지 확인하려면

1. 팁이 귓구멍 입구에 편안하게 고정되도록 헤드폰을 귀에 삽입합니다.
2. 헤드폰을 뒤로 기울이고 귀이랑 아래에서 팁 날개를 눌러서 고정시킵니다.  
팁이 귀 안에 편안하게 고정되어 착용되어야 합니다.




## 이어팁 교환

1. 팁이 찢어지지 않도록 주의하면서 부착된 팁의 가장자리를 이어피스에서 부드럽게 벗겨냅니다.

**주의:** 손상될 수 있으므로 StayHear® Ultra 팁 날개를 잡아당기지 마십시오.

2. 새 팁의 입구를 노즐 위에 놓고 작은 슬롯을 노즐 후크 위에 놓습니다.
3. 팁의 밑면을 이어피스 베이스에 부드럽게 넣어 팁을 고정합니다.



## 헤드폰 제거

이어팁이 귀 안에서 밀봉을 형성할 수 있습니다. 헤드폰을 제거할 때는 천천히 돌리는 동작으로 서서히 밀봉을 깨뜨립니다.


# 헤드폰 사용

## 편안하게 잘 고정되도록 조정

편안하게 잘 고정되도록 헤드폰을 조절하는 방법이 몇 가지 있습니다. 조절 슬라이더와 클립을 사용하여 헤드폰을 착용하는 방법을 조정할 수 있습니다.

### 클립 사용

클립을 사용하여 케이블을 옷에 고정해 두면 편안하고 안정적이며, 케이블을 쉽게 관리할 수 있습니다. 클립은 움직임이 많은 활동 또는 단일 이어폰 구성에서 헤드폰을 사용할 때 유용할 수 있습니다.



### 단일 이어피스 사용

Bose® SoundTrue® Ultra 인-이어 헤드폰은 오른쪽(R) 이어피스로만 사용할 수도 있습니다. 이렇게 하면 통화를 하면서 주변의 소리를 들을 수 있습니다.

## 문제 해결

헤드폰 사용에 문제가 있는 경우 다음 문제 해결 지침을 따르십시오.

문제	해결 방법
소리가 나지 않거나/간헐적일 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 헤드폰 케이블을 장치의 3.5mm 헤드폰 커넥터에 단단히 연결합니다.</li> <li>• 다른 팁 크기를 시도해보십시오.</li> <li>• 다른 장치를 사용해 보십시오.</li> </ul>
저음이 과도할 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 오디오 장치의 오디오 향상 기능을 끄십시오.</li> </ul>
마이크가 작동하지 않을 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 호환되는 장치를 사용하고 있는지 확인하십시오.</li> <li>• 헤드폰 입력에 헤드폰 플러그를 단단히 연결합니다.</li> <li>• 통화/종료 버튼 뒤에 마이크 구멍이 막히지 않았는지 확인하십시오.</li> <li>• 다시 통화를 시도해 보십시오.</li> <li>• 다른 장치를 사용해 보십시오.</li> </ul>
리모콘 (버튼)을 눌러도 장치가 반응하지 않을 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 헤드폰 케이블을 장치의 3.5mm 헤드폰 커넥터에 단단히 연결합니다.</li> <li>• 여러 번 누르기 기능의 경우: 누르기 속도를 바꿔 보십시오.</li> </ul>
장치가 리모콘에 반응하지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 일부 장치 또는 응용 프로그램의 경우 모든 조작이 가능하지 않을 수도 있습니다.</li> </ul>
이어 팁이 떨어질 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 이어 팁을 이어피스와 노즐 후크에 단단히 부착합니다.</li> </ul>
이어 팁을 분실한 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bose에 교체용 팁을 문의하십시오.</li> </ul>
소리가 이어피스에서 분명하게 들리지 않을 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 이어팁과 헤드폰 노즐에서 먼지나 기름때를 청소하십시오.</li> <li>• 헤드폰을 오디오 장치에서 분리한 다음 다시 꽂아서 제대로 연결되었는지 확인하십시오.</li> <li>• 다른 장치를 사용해 보십시오.</li> </ul>

# 重要安全信息

请仔细阅读本用户指南，并将其保存以供日后参考。



## 警告：

- 请勿长时间在高音量下使用耳机。
  - 为了避免听力受损，请以舒适、适度的音量使用耳机。
  - 先将设备音量调低，然后再戴上耳机，之后再逐渐调高音量，直到达到舒适的听觉水平。
- 如在驾驶时通过本耳机进行通话，应谨慎使用，并遵守关于手机和耳机使用的适用法律。有些地方的法律对在驾驶时使用此类产品有特别限定，如单耳承的配置。请勿在驾驶时将耳机用作其他用途。
- 如果您在从事需要集中注意力的活动时使用耳机，应注意您自身和他人的安全，例如骑自行车时或在道路、施工现场或铁路上或附近步行时。您应取下耳机或调整音量，以确保可以听到周围的声音，包括警报和警告信号。
- 请勿使用手机适配器连接耳机和飞机座椅插孔，因为由此产生的高温会导致灼伤等人身伤害或财产损失。
- 应在感觉到发热或听不到声音时立即取下耳机并断开连接。
- 请勿将耳机浸入水中或长时间暴露在潮湿环境下，或在游泳、滑水、冲浪等水上运动过程中佩戴。
- 请勿将耳机或配件弄湿。暴露于潮湿环境可能会增加火灾或触电的危险。
- 请勿将明火火源（如点燃的蜡烛）置于本产品上或靠近本产品。



**警告：**包含小部件，可能导致窒息危险。不适合 3 岁以下的儿童使用。



**警告：**本产品含有磁性材料。如果怀疑此产品会影响植入医疗设备的运行，请咨询医生。



本产品符合所有适用的欧盟指令要求。您可以从 [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance) 找到完整的符合声明。



此标志表示本产品不得作为生活垃圾丢弃，必须送至相关回收部门循环利用。适当的处理和回收有助于保护自然资源、人类健康以及自然环境。想了解更多有关本产品和回收的信息，请与当地民政部门、处理服务部或购买本产品的商店联系。

有毒或有害物质或元素的名称及成分

有毒或有害物质和元素						
零件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CR(VI))	多溴化联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板	X	0	0	0	0	0
金属零件	X	0	0	0	0	0
塑料零件	0	0	0	0	0	0
扬声器	X	0	0	0	0	0
线缆	X	0	0	0	0	0

此表格符合 SJ/T 11364 标准。  
0: 表示此零件中所有同类物质包含的有害物质低于 GB/T 26572 中的限定要求。  
X: 表示此零件使用的同类物质中至少有一种包含的有害物质高于 GB/T 26572 中的限定要求。

©2015 Bose Corporation. 未经事先书面许可，不得复制、修改、发行或以其他方式使用本资料的任何部分。

关于 Bose® SoundTrue® Ultra 入耳式耳机 .....	4
特点 .....	4
开箱 .....	5
连接至您的设备 .....	6
在设备中使用该耳机 .....	6
耳机控件 .....	6
基本功能 .....	7
媒体播放功能 .....	7
正确安装重要提示 .....	8
将耳机正确地戴在耳朵上 .....	8
更换耳塞 .....	9
取下耳机 .....	9
调整耳机以实现舒适感和稳定性 .....	10
使用衣夹 .....	10
使用单个耳承 .....	10
故障诊断 .....	11

Samsung Galaxy 是 Samsung Electronics Co., Ltd. 的商标。  
Android 是 Google Inc 的商标。

**请填写以下内容，留作记录：**

原装箱和保修卡上印有序列号和型号。

序列号 \_\_\_\_\_

型号 \_\_\_\_\_

购买日期 \_\_\_\_\_

建议您将发票和本用户指南保存在一起。

# 使用耳机

---

## 关于 Bose® SoundTrue® Ultra 入耳式耳机

---

Bose® SoundTrue® Ultra 入耳式耳机提供逼真音频表现力与舒适感的完美组合，大部分传统耳机不具备此性能。


### 特点

- 让您能够完全沉浸在清晰且深邃的音乐声中。
- 独特的 TriPort® 技术在高音量下也能提供舒适自然的低频音质。
- 内嵌麦克风和遥控器可在音乐和通话两种功能之间轻松切换，搭配三星 Galaxy 设备和精品 Android 设备使用。
- StayHear® 耳塞可舒适地将耳机固定到位。
- 产品经设计和测试，质优耐用。
- 便携式包装袋可储存和保护耳机。
- 颜色多样，任您挑选。



## 开箱

小心地拆开包装箱并确认是否含有以下部件：




**注意：**耳机随附有中型（灰色）StayHear® Ultra 耳塞。

# 使用耳机

## 连接至您的设备

将耳机连接至设备上的标准 3.5 mm 耳机接头。




## 在设备中使用该耳机

Bose® SoundTrue® Ultra 入耳式耳机随附有内嵌麦克风和 3 按钮遥控器。

**注意：**遥控器背面的 S 标记表示这些耳机专供三星 Galaxy 与精品 Android 设备使用。部分机型或应用程序可能无法使用全部控件。请参阅您的设备用户指南查看遥控器是否适用于此机型。

## 耳机控件



## 基本功能

提高音量	按下并释放 + 按钮。
降低音量	按下并释放 - 按钮。
接听呼叫	当您收到来电时，按下并释放 Answer/End 按钮即可接听。
结束呼叫	按下并释放 Answer/End 按钮。
拒绝接听来电	按住 Answer/End 按钮 2 秒钟，然后释放。
切换至来电或等候接听的呼叫并保持当前来电处于等候接听状态	进行呼叫时，按一下 Answer/End 按钮。再次按下并释放可切换回第一个呼叫。
切换至来电或等候接听的呼叫并结束当前呼叫	进行呼叫时，按住 Answer/End 按钮 2 秒钟，然后释放。
使用声音控件	按住 Answer/End 按钮。 有关语音控制的更多信息，请参阅设备用户指南。

## 媒体播放功能

播放或暂停歌曲或视频	按下并释放 Answer/End 按钮。
快进	连续两次快速按下并释放 Answer/End 按钮。
快退	连续三次快速按下并释放 Answer/End 按钮。


# 使用耳机

## 正确安装重要提示

选择正确尺寸的 StayHear® Ultra 耳塞对于获取最佳音频性能至关重要。选择可带给您最佳舒适感并适合每只耳朵的尺寸。您可能需要尝试全部三种尺寸以确定适合您的最佳型号。

**注意：**您可大声说话测试耳塞。两只耳朵都应当听不清自己的声音。如果不是这样，请选择另一种尺寸的耳塞。

每个耳塞都标有 L 或 R，请务必将左侧耳塞连接在左耳承 (L)，右侧耳塞连接在右耳承 (R) 上。




## 将耳机正确地戴在耳朵上

StayHear® 耳塞能让耳机舒适地放置于耳朵内。耳塞的翼部就在耳甲的下面。

**要确定耳塞的尺寸是否合适：**

1. 将耳机塞入耳朵，让耳塞轻轻地置放在耳道的开阔处。
2. 将耳机向后倾斜，将耳塞翼部塞到耳甲下，直至牢固固定。

耳塞应该舒服又牢固地固定在耳朵里。




## 更换耳塞

1. 轻轻地将连接的耳塞边缘从耳承上取下，一定要小心不要损坏耳塞。

**小心：**为了防止造成损坏，请勿拖拉 StayHear® Ultra 耳塞的翼部。

2. 将新耳塞的开口处和小插槽分别对准耳承的出音孔和出音孔上的弯钩。
3. 围绕耳承底部轻轻向下移动耳塞，直到感觉耳塞已经固定牢固。



## 取下耳机

耳塞可能与耳内部紧密贴合。取下耳机前，请缓慢扭动耳塞，使其脱离。

## 使用耳机

---


### 调整耳机以实现舒适感和稳定性

---

您可以通过多种方式调整耳机以得到额外的舒适感和稳定性。您可以使用调整滑块和衣夹随意佩戴耳机。

#### 使用衣夹

使用衣夹可将线缆固定到衣服以实现便利性和稳定性，而且可以帮助管理线缆。在运动过程中或以单耳承配置使用耳机时，使用衣夹很有帮助。



#### 使用单个耳承

您可以只使用 Bose® SoundTrue® Ultra 入耳式耳机的右 (R) 耳承。这样您就可以在通话时仍能听到周围的声音。

## 故障诊断

如果您在使用耳机时遇到任何问题，请根据下面的故障诊断说明尝试解决。

问题	措施
没有声音/间断性发声	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 将耳机线牢固地插入设备的 3.5 mm 耳机插孔中。</li> <li>• 尝试其他型号的耳塞。</li> <li>• 尝试其他设备。</li> </ul>
低音过强	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 关闭音频来源上的任何音频增强功能。</li> </ul>
麦克风没有接收到声音	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 确保您使用的是兼容设备。</li> <li>• 将耳机插头牢固地插入耳机插孔。</li> <li>• 确保 Answer/End 按钮后面的麦克风开口未被阻挡。</li> <li>• 尝试再次通话。</li> <li>• 尝试其他设备。</li> </ul>
设备对遥控器（按钮）的按压操作无反应	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 将耳机线牢固地插入设备的 3.5 mm 耳机插孔中。</li> <li>• 连接功能：用不同的速度按键。</li> </ul>
设备对遥控器操作无反应	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 部分设备或应用程序可能无法使用全部控件。</li> </ul>
耳塞跌落	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 将耳塞稳固连接至耳承和出音孔弯钩。</li> </ul>
耳塞丢失	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 联系 Bose 获取备用耳塞。</li> </ul>
耳承声音不清	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 清除耳塞和耳机出音孔上的碎屑和耳垢。</li> <li>• 从音源上拔下耳机，然后重新插入，以确保连接牢固。</li> <li>• 尝试其他设备。</li> </ul>

# 重要安全資訊

請仔細閱讀本使用者指南，並將其保存以供日後參考。



## 警告：

- 請勿長時間在高音量下使用耳機。
  - 為了避免聽力受損，請以舒適、適度的音量使用耳機。
  - 先將裝置音量調低，然後再戴上耳機，之後再逐漸調高音量，直到達到舒適的聽覺效果。
- 若在駕駛時透過本耳機進行通話，應謹慎使用，並遵守關於行動電話和耳機使用的適用法律。有些地方的法律對在駕駛時使用此類產品有特別限定，如單耳承的組態。請勿在駕駛時將耳機用作其他用途。
- 若您在從事需要集中注意力的活動時使用耳機，應注意您自身和他人的安全，例如騎自行車時或在道路、施工現場或鐵路上或附近步行時。您應取下耳機或調整音量，以確保可以聽到週圍的聲音，包括警報和警告訊號。
- 請勿使用行動電話配接器來連接耳機和飛機座椅插孔，因為由此產生的高溫會導致灼傷等人身傷害或財產損失。
- 應在感覺到發熱或聽不到聲音時立即取下耳機並斷開連接。
- 請勿將耳機浸入水中或長時間暴露在潮濕環境下，或在游泳、滑水、衝浪等水上運動過程中佩戴。
- 請勿將耳機或配件弄濕。暴露於潮濕環境可能會增加火災或觸電的危險。
- 請勿將明火火源（如點燃的蠟燭）置於本產品上或靠近本產品。



警告：包含小部件，可能導致窒息危險。不適合 3 歲以下的兒童使用。



警告：本產品含有磁性材料。如果懷疑此產品會影響植入醫療設備的運行，請諮詢醫生。



本產品符合所有適用的歐盟指令要求。您可以從 [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance) 找到完整的符合聲明。



此標誌表示本產品不得作為生活垃圾丟棄，必須送至相關回收部門循環利用。適當的處理和回收有助於保護自然資源、人類健康以及自然環境。想了解更多有關本產品和回收的資訊，請與當地民政部門、處理服務部或購買本產品的商店聯絡。

有毒或有害物質或元素的名稱及成分

有毒或有害物質或元素						
零件名稱	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (CR(VI))	多溴化聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
列印電路板	X	0	0	0	0	0
金屬零件	X	0	0	0	0	0
塑膠零件	0	0	0	0	0	0
揚聲器	X	0	0	0	0	0
連接線	X	0	0	0	0	0

此表格符合 SJ/T 11364 標準。  
0：表示此零件中所有同類物質包含的有害物質低於 GB/T 26572 中的限定要求。  
X：表示此零件使用的同類物質中至少有一種包含的有害物質高於 GB/T 26572 中的限定要求。

©2015 Bose Corporation. 未經事先書面許可，不得複製、修改、發行或以其他方式使用本資料的任何部分。



關於 Bose® SoundTrue® Ultra 入耳式耳機 .....	4
特點 .....	4
開箱 .....	5
連接至您的裝置 .....	6
在裝置中使用該耳機 .....	6
耳機控制項 .....	6
基本功能 .....	7
媒體播放功能 .....	7
正確安裝重要提示 .....	8
將耳機正確地戴在耳朵上 .....	8
更換耳塞 .....	9
取下耳機 .....	9
調整耳機以實現舒適感和穩定性 .....	10
使用衣夾 .....	10
使用單個耳承 .....	10
疑難排解 .....	11

Samsung Galaxy 是 Samsung Electronics Co., Ltd. 的商標。  
Android 是 Google Inc 的商標。

**請填寫以下內容，留作記錄：**

原裝箱和保修卡上印有序號和型號。

序號 \_\_\_\_\_

型號 \_\_\_\_\_

購買日期 \_\_\_\_\_

建議您將發票和本使用者指南保存在一起。

# 使用耳機

---

## 關於 Bose® SoundTrue® Ultra 入耳式耳機

---


Bose® SoundTrue® Ultra 入耳式耳機提供逼真音訊表現力與舒適感的完美組合，大部分傳統耳機不具備此效能。

### 特點

- 讓您能夠完全沉浸在清晰且深邃的音樂聲中。
- 獨特的 TriPort® 技術在高音量下也能提供舒適自然的低頻音質。
- 內嵌麥克風和遙控器可在音樂和通話兩種功能之間輕鬆切換，搭配三星 Galaxy 裝置和精品 Android 裝置使用。
- StayHear® 耳塞可舒適地將耳機固定到位。
- 產品經設計和測試，質優耐用。
- 攜帶型包裝袋可存儲和保護耳機。
- 顏色多樣，任您挑選。

## 開箱

小心地拆開包裝箱並確認是否含有以下部件：




**備註：**耳機隨附有中型（灰色）StayHear® Ultra 耳塞。

# 使用耳機

## 連接至您的裝置

將耳機連接至裝置上的標準 3.5 mm 耳機接頭。




## 在裝置中使用該耳機

Bose® SoundTrue® Ultra 入耳式耳機隨附有內嵌麥克風和 3 按鈕遙控器。

**備註：**遙控器背面的 S 標記表示這些耳機專供三星 Galaxy 與精品 Android 裝置使用。部分機型或應用程式可能無法使用全部控制項。請參閱您的裝置使用者指南查看遙控器是否適用於此機型。

## 耳機控制項



## 基本功能

提高音量	按下並釋放 + 按鈕。
降低音量	按下並釋放 - 按鈕。
接聽呼叫	當您收到來電時，按下並釋放 Answer/End 按鈕即可接聽。
結束呼叫	按下並釋放 Answer/End 按鈕。
拒絕接聽來電	按住 Answer/End 按鈕 2 秒鐘，然後釋放。
切換至來電或等候接聽的呼叫並保持當前來電處於等候接聽狀態	進行呼叫時，按一下 Answer/End 按鈕。再次按下並釋放可切換回第一個呼叫。
切換至來電或等候接聽的呼叫並結束當前呼叫	進行呼叫時，按住 Answer/End 按鈕 2 秒鐘，然後釋放。
使用聲音控制項	按住 Answer/End 按鈕。 有關語音控制的更多資訊，請參閱裝置使用者指南。

## 媒體播放功能

播放或暫停歌曲或視訊	按下並釋放 Answer/End 按鈕。
快轉跳過	連續兩次快速按下並釋放 Answer/End 按鈕。
倒轉跳過	連續三次快速按下並釋放 Answer/End 按鈕。


# 使用耳機

## 正確安裝重要提示

選擇正確尺寸的 StayHear® Ultra 耳塞對於獲取最佳音訊效能至關重要。選擇可帶給您最佳舒適感並適合每只耳朵的尺寸。您可能需要嘗試全部三種尺寸以確定適合您的最佳型號。

**備註：**您可大聲說話測試耳塞。兩隻耳朵都應當聽不清自己的聲音。如果不是這樣，請選擇另一種尺寸的耳塞。

每個耳塞都標有 L 或 R，請務必將左側耳塞連接在左耳承 (L)，右側耳塞連接在右耳承 (R) 上。




## 將耳機正確地戴在耳朵上

StayHear® 耳塞能讓耳機舒適地放置於耳朵內。耳塞的翼部就在耳甲的下面。

要確定耳塞的尺寸是否合適：


1. 將耳機塞入耳朵，讓耳塞輕輕地置放在耳道的開闊處。
2. 將耳機向後傾斜，將耳塞翼部塞到耳甲下，直至牢固固定。

耳塞應該舒服又牢固地固定在耳朵裡。



## 更換耳塞

1. 輕輕地將連接的耳塞邊緣從耳承上取下，一定要小心不要損壞耳塞。  
小心：為了防止造成損壞，請勿拖拉 StayHear® Ultra 耳塞的翼部。
2. 將新耳塞的開口處和小插槽分別對準耳承的出音孔和出音孔上的彎鉤。
3. 圍繞耳承底部輕輕向下移動耳塞，直到感覺耳塞已經固定牢固。



## 取下耳機

耳塞可能已與耳內部緊密貼合。取下耳機前，請緩慢扭動耳塞，使其脫離。

## 使用耳機

---


### 調整耳機以實現舒適感和穩定性

---

您可以透過多種方式調整耳機以得到額外的舒適感和穩定性。您可以使用調整滑塊和衣夾隨意佩戴耳機。

#### 使用衣夾

使用衣夾可將線纜固定到衣服以實現便利性和穩定性，而且可以幫助管理線纜。在高度移動的活動中或以單耳承配置使用耳機時，使用衣服夾很有幫助。



#### 使用單個耳承

您可以只使用 Bose® SoundTrue® Ultra 入耳式耳機的右 (R) 耳承。這樣您可以在通話時仍能聽到周圍聲音。



## 疑難排解

如果您在使用耳機時遇到任何問題，請根據下面的疑難排解說明嘗試解決。

問題	措施
沒有聲音/間斷性發聲	<ul style="list-style-type: none"> <li>將耳機線牢固地插入裝置的 3.5 mm 耳機插孔中。</li> <li>嘗試其他型號的耳塞。</li> <li>試試另一個裝置。</li> </ul>
低音過強	<ul style="list-style-type: none"> <li>關閉音訊來源上的任何音訊增強功能。</li> </ul>
麥克風沒有接收到聲音	<ul style="list-style-type: none"> <li>確保您使用的是相容裝置。</li> <li>將耳機插頭牢固地插入耳機插孔。</li> <li>確保 Answer/End 按鈕背面的麥克風開口未被阻擋。</li> <li>嘗試再次通話。</li> <li>試試另一個裝置。</li> </ul>
裝置對遙控器（按鈕）的按壓操作無反應	<ul style="list-style-type: none"> <li>將耳機線牢固地插入裝置的 3.5 mm 耳機插孔中。</li> <li>連按功能：用不同的速度按鍵。</li> </ul>
裝置對遙控器操作無反應	<ul style="list-style-type: none"> <li>部分裝置或應用程式可能無法使用全部控制項。</li> </ul>
耳塞跌落	<ul style="list-style-type: none"> <li>將耳塞穩固連接至耳承和出音孔彎鉤。</li> </ul>
耳塞遺失	<ul style="list-style-type: none"> <li>聯絡 Bose 獲取備用耳塞。</li> </ul>
耳承聲音不清	<ul style="list-style-type: none"> <li>清除耳塞和耳機出音孔上的碎屑和耳垢。</li> <li>從音源上拔下耳機，然後重新插入，以確保連接牢固。</li> <li>試試另一個裝置。</li> </ul>

# 安全上の留意項目

このオーナーズガイドに記載された内容をよくお読みください。また、必要な時にすぐご覧になれるように、大切に保管しておくことをおすすめいたします。



## 警告:

- 大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。特に長時間にわたるヘッドホンのご使用の際は、大きな音量はお避けください。
  - ヘッドホンを使用する場合は、耳に負担をかけないように適度な音量に調節してください。
  - 再生機器の音量を下げたからヘッドホンを耳に装着し、適度な音量になるまで少しずつ音量を上げてください。
- 運転中の通話にヘッドホンを使用する場合は、携帯電話とヘッドホンの使用に関する国または地域の法令を確認し、これを遵守してください。一部の国または地域の法令では、運転中の製品の使用について、片耳だけのヘッドホンの使用など、特定の制限事項が適用される場合があります。車を運転している時は、ヘッドホンを使用して音楽を聴いたりしないでください。
- 自転車に乗っている時や、車道、建設現場、線路などの付近を歩いている時などにヘッドホンを使用する場合は、安全に十分注意してください。アラームや警告音などの周囲の音が聞こえるように、ヘッドホンを外すか、音量を下げたヘッドホンをお使いください。
- ヘッドホンを飛行機の座席端子に接続する際は、携帯電話用のアダプターは使用しないでください。使用した場合、火傷などの人身傷害や過熱による物的損害が発生する恐れがあります。
- 熱を感じた場合、または音声が聞こえなくなった場合には、直ちに取り外し、接続を切断してください。
- ヘッドホンを長時間水に浸したり、水泳や水上スキー、サーフィンなどのウォータースポーツで使用したりしないでください。
- ヘッドホンやアクセサリを濡らさないでください。水に濡れると、火災や感電の原因となる恐れがあります。
- 火の付いたろうそくなどの火気を、製品の上や近くに置かないでください。



**警告:** のどに詰まりやすい小さな部品が含まれています。3歳未満のお子様には適していません。



**警告:** この製品には磁性材料が含まれています。埋め込み型医療機器の動作に影響があるかどうかについては、医師にご相談ください。



This product conforms to all applicable EU directive requirements. The complete declaration of conformity can be found at [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)




This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

Names and Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements						
Toxic or Hazardous Substances and Elements						
Part Name	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybrominated Biphenyl (PBB)	Polybrominated diphenylether (PBDE)
PCBs	X	0	0	0	0	0
Metal parts	X	0	0	0	0	0
Plastic parts	0	0	0	0	0	0
Speakers	X	0	0	0	0	0
Cables	X	0	0	0	0	0

This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.

O: Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

X: Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.



©2015 Bose Corporation. 本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複写、変更、配布、その他の使用は許可されません。

Bose® SoundTrue® Ultra in-ear headphones について .....	4
特長 .....	4
内容物の確認 .....	5
再生機器への接続 .....	6
ヘッドホンによる機器の操作 .....	6
ヘッドホンの操作部 .....	6
基本機能 .....	7
メディア再生機能 .....	7
正しい装着の重要性 .....	8
ヘッドホンの耳への装着 .....	8
イヤーチップの交換 .....	9
ヘッドホンを耳から外す .....	9
ヘッドホンの快適な装着のために .....	10
クリップの使い方 .....	10
ヘッドホンの片側使用 .....	10
故障かな?と思ったら .....	11
お手入れについて .....	12
保証 .....	12

Samsung GalaxyはSamsung Electronics Co., Ltd.の商標です。  
AndroidはGoogle Inc.の商標です。

**控えとして、製品のシリアル番号を下の欄にご記入ください。**

シリアル番号は、購入時の製品パッケージと同梱の英文Warranty Cardに記載されています。

シリアル番号 \_\_\_\_\_

モデル番号 \_\_\_\_\_

購入日 \_\_\_\_\_

このガイドとともに、ご購入時の領収証と保証書を保管することをおすすめします。

# ヘッドホンの使用

---

## Bose® SoundTrue® Ultra in-ear headphones について

---


Bose® SoundTrue® Ultra in-ear headphonesは、従来のイヤホンでは不可能な臨場感あふれる音質と優れた通話性能を同時に実現した、快適な装着感を誇る製品です。

### 特長

- 深みのあるクリアで包まれるようなサウンドで音楽をお楽しみいただけます。
- 独自のTriPort®テクノロジーにより、音量を上げても低音域の自然な響きが損なわれません。
- Samsung Galaxyシリーズおよび一部のAndroidデバイスで通話と音楽の操作を簡単に行えるマイク付きリモコンが装備されています。
- StayHear®チップにより、安定した装着感が保たれます。
- 耐久性に優れた設計で、高音質がいつまでも続きます。
- ヘッドホンを保護するキャリングケースが付属しています。

## 内容物の確認

箱の中身を取り出して、下図の内容物がすべて同梱されていることを確認してください。




**注記:** ヘッドホンには出荷時にMサイズ(グレー)のStayHear® Ultraチップが装着されています。

## ヘッドホンの使用

### 再生機器への接続

ヘッドホン再生機器の3.5 mmヘッドホン端子に接続します。




### ヘッドホンによる機器の操作

Bose® SoundTrue® Ultra in-ear headphonesにはマイク付きリモコンが装備されています。

**注記:** リモコンの裏面にあるSマークは、このヘッドホンがSamsung Galaxy シリーズおよび一部のAndroidデバイス用に設計されたものであることを示しています。一部のモデルやアプリケーションでは、操作機能が限定される場合があります。リモコンがお使いのモデルで動作するかについては、お使いの製品の取扱説明書をご覧ください。

### ヘッドホンの操作部



## 基本機能

音量を上げる	音量[+]ボタンを押してください。
音量を下げる	音量[-]ボタンを押してください。
通話に応答する	かかってきた電話に応答する場合は、中央ボタンを押してください。
通話を終了する	中央ボタンを押してください。
かかってきた電話を切る	中央ボタンを2秒間押し続けてから放してください。
通話中の相手を保留にしてキャッチホンに応答する	通話中に中央ボタンを1回押してください。ボタンをもう1回押すと、保留していた相手との通話が再開されます。
通話中の相手との通話を終了してキャッチホンに応答する	通話中に中央ボタンを2秒間長押ししてから、放してください。
ボイスコントロールを使用する	中央ボタンを押し続けます。 ボイスコントロールの詳細については、機器の取扱説明書をご覧ください。

## メディア再生機能

音楽やビデオを再生/一時停止する	中央ボタンを押してください。
トラック送り	中央ボタンを続けて2回押してください。
トラック戻し	中央ボタンを続けて3回押してください。


# ヘッドホンの使用

## 正しい装着の重要性

ボーズ製品の優れた音質をお楽しみいただくためには、適切なサイズのStayHear® Ultraチップを選ぶことが大切です。3種類のサイズのチップから、耳に最もフィットするものをお選びください。付属のチップをすべてお試しいただくことをおすすめします。

**注記:** 耳にフィットしているかどうか確かめるには、声を出してみてください。チップが耳にフィットしていれば、声がかもったように聞こえます。そうでなければ、別のチップをお試しください。

チップにはL(左)、R(右)のマークが付いています。左耳用のチップをイヤースピークのL側に、右耳用のチップをR側にそれぞれ正しく取り付けてください。




## ヘッドホンの耳への装着

ヘッドホンには、耳の窪みに快適に装着できるように設計されたStayHear®チップが取り付けられています。このチップのウイング部分が、耳の溝にフィットします。

**適切なサイズのチップを選択するには:**

1. ヘッドホンが落ちない程度に、ヘッドホンを軽く耳に挿し込みます。
2. ヘッドホンを後頭部側に倒して、イヤーチップのウイング部分を耳の溝におさめます。

チップが耳の窪みにしっかりとおさまり、安定して装着できていることを確認してください。






## イヤーチップの交換

1. チップの縁を、ウィングの付いている側からはがすように持ち上げ、破かないように注意してヘッドホンから外します。

**注意:** ウィング部分を引っ張って、StayHear® Ultraチップを破損しないようにしてください。

2. ヘッドホンのノズルにチップをかぶせるように差し込み、チップの内側にある溝がノズル根元の突起部と合うように位置を合わせます。
3. チップを押して、溝をノズルの突起部にはめ込みます。チップがぴったりとはまり、正しく固定されていることを確認します。



## ヘッドホンを耳から外す

イヤーチップが耳の中におさまリ、外れにくくなっている場合があります。そのようなときは、チップをゆっくりひねるようにして耳の穴からはがし、ヘッドホンを外してください。

## ヘッドホンの使用

---


### ヘッドホンの快適な装着のために

---

クリップを使って、ご自分の使い方にあつた装着方法が選べます。ヘッドホンの装着方法に合わせて、装着クリップを調整します。

#### クリップの使い方

クリップでケーブルを衣服などに固定することで、ケーブルが絡みついたりすることを抑えます。エクササイズなどの激しい運動を行う時や右側のヘッドホンだけを使用する場合のケーブルの固定に役立ちます。



#### ヘッドホンの片側使用

Bose® SoundTrue® Ultra in-ear headphonesは、右(R)のヘッドホンのみを耳に装着して使用できます。周囲の音を聞きながら電話で話することができます。

## 故障かな？と思ったら

ヘッドホンの使用に問題が生じた場合、次の指示を参照してください。問題が解決しない場合は、カスタマーサービスまでお問い合わせください。専用ナビダイヤル 0570-080-021

トラブル	対処方法
音が聞こえない/途切れる	<ul style="list-style-type: none"> <li>ヘッドホンのケーブルを、音楽再生機器の3.5 mmヘッドホン端子にしっかりと差し込みます。</li> <li>別のサイズのチップを試してみてください。</li> <li>別の音楽再生機器をお試しください。</li> </ul>
低音が大きすぎる	<ul style="list-style-type: none"> <li>音楽再生機器の音質調整機能をオフにします。</li> </ul>
マイクが音を正常に拾わない	<ul style="list-style-type: none"> <li>対応している機器を使用していることを確認します。</li> <li>ヘッドホンプラグをヘッドホン端子にしっかりと接続します。</li> <li>通話ボタンの裏側にあるマイク開口部がふさがれていないことを確認します。</li> <li>もう一度電話をおかけ直してください。</li> <li>別の音楽再生機器をお試しください。</li> </ul>
機器がボタン操作に反応しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>ヘッドホンのケーブルを、音楽再生機器の3.5 mmヘッドホン端子にしっかりと差し込みます。</li> <li>2回以上続けて押す操作の場合は、押す速度を変えてみてください。</li> </ul>
機器がリモコン操作に反応しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>一部の機器やアプリケーションでは、操作機能が限定される場合があります。</li> </ul>
StayHear®チップが外れる	<ul style="list-style-type: none"> <li>ヘッドホンのノズル根元にある突起部にチップをしっかりと取り付けます。</li> </ul>
StayHear®チップを紛失した	<ul style="list-style-type: none"> <li>イヤークリップの入手方法はBoseカスタマーサービスまでお問い合わせください。</li> </ul>
ヘッドホンからの音ははっきり聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> <li>チップやヘッドホンのノズルの先端にごみなどが詰まっていれば取り除きます。</li> <li>音楽再生機器からヘッドホンを外し、しっかりと接続しなおしてください。</li> <li>別の音楽再生機器をお試しください。</li> </ul>

## ヘッドホンの使用

---

### お手入れについて

---

定期的にお手入れすることをおすすめします。

**イヤーチップ:** イヤーチップをヘッドホンから取り外し、水に中性洗剤を溶かした溶液で洗います。ヘッドホンに取り付ける際には、十分に乾燥していることを確認してから取り付けてください。

**ヘッドホンのノズル:** 柔らかい布か綿棒などを使ってそっと汚れを拭き取ってください。ノズルの開口部に清掃道具を差し込まないでください。

### 保証

---

製品保証の詳細は (<http://bose.co.jp/rep>) をご覧ください。製品のご登録をお願いいたします。登録は、<http://global.Bose.com/register> から簡単に行えます。製品を登録されない場合でも、保証の内容に変更はありません。



حاول اتباع التعليمات التالية الخاصة بحل المشاكل إذا صادفتك مشاكل في استخدام سماعات الرأس.

المشكلة	الحل
لا يوجد صوت/أو يوجد صوت متقطع	<ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بإحكام توصيل كبل سماعة الرأس بموصل سماعات الرأس 3.5 ملم في جهازك.</li> <li>• جرب حجم سداة أذن آخر.</li> <li>• جرب جهازاً آخر.</li> </ul>
صوت باص زائد عن الحد	<ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بإيقاف تشغيل جميع خصائص تحسين الصوت في مصدر الصوت.</li> </ul>
الميكروفون لا يلتقط الصوت	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكد من أنك تستخدم جهازاً متوافقاً.</li> <li>• قم بإحكام توصيل قابس سماعات الرأس في مدخل السماعة.</li> <li>• تأكد من عدم انسداد فتحة الميكروفون خلف زر الرد/الإنهاء.</li> <li>• جرب مكالمة هاتفية أخرى.</li> <li>• جرب جهازاً آخر.</li> </ul>
الجهاز لا يستجيب لضغوط أزرار جهاز الريموت	<ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بإحكام توصيل كبل سماعة الرأس بموصل سماعات الرأس 3.5 ملم في جهازك.</li> <li>• لوظائف الضغط المتعدد: تختلف حسب سرعة الضغط.</li> </ul>
لا يستجيب الجهاز لجهاز الريموت	<ul style="list-style-type: none"> <li>• قد لا تتوفر أدوات التحكم الكاملة لبعض الأجهزة أو التطبيقات.</li> </ul>
سقوط سدادات الأذن	<ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بتثبيت سدادات الأذن جيداً بقطعة الأذن ومشبك الفوهة.</li> </ul>
سداة أذن مفقودة	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اتصل بشركة Bose بخصوص سدادات الاستبدال.</li> </ul>
صوت قطعة الأذن مكتوم	<ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بإزالة أي مخلفات أو تراكم للشمع من سدادات الأذن وفوهات سماعات الرأس.</li> <li>• قم بفصل سماعات الرأس من مصدر الصوت ثم إعادة توصيلها للتأكد من أنها موصلة جيداً.</li> <li>• جرب جهازاً آخر.</li> </ul>


## استخدام سماعات الرأس

### الضبط للراحة والثبات

توجد عدة طرق لضبط سماعات الرأس لتوفير المزيد من الراحة والثبات. ويمكنك تخصيص طريقة ارتداء سماعات الرأس باستخدام منزلق الضبط ومشبك الملابس.

#### استخدام مشبك الملابس

استخدم مشبك الملابس لربط الكبل بملايسك للراحة والثبات وليساعدك على التحكم في الكبل. ويمكن أن يكون ذلك مفيداً أثناء الأنشطة المليئة بالحركة أو عند استخدام سماعات الرأس في تهيئة قطعة أذن واحدة.




#### استخدام قطعة أذن واحدة

يمكن استخدام سماعات الرأس داخل الأذن Bose® SoundTrue® Ultra بقطعة الأذن اليمنى (R) فقط في أذنيك. وهذا يسمح لك باستقبال المكالمات وسماع الأصوات المحيطة.

### تغيير سدادات الأذن

1. قم بتقشير حواف السدادة الملحقة برفق بعيداً عن قطعة الأذن مع توجي الحذر لعدم تمزيق السدادة.  
تنبيه: لتجنب التلف، لا تجذب جناح سدادة StayHear® Ultra.
2. قم بضبط وضع السدادة الجديدة على الفوهة وعلى الفتحة الصغيرة على مشبك الفوهة.
3. قم بوضع قاعدة السدادة على قاعدة قطعة الأذن بشكل سهل إلى أن تشعر أن السدادة ثابتة.



### إزالة سماعات الرأس:

قد تشكل قطعة الأذن مانعاً محكماً داخل الإذن. استخدم حركة ثني بطينة لكسر المانع تدريجياً قبل إزالة سماعات الرأس.



### أهمية التركيب الصحيح

لأفضل أداء للصوت، من المهم اختيار الحجم الصحيح لسدادة StayHear® Ultra. حدد الحجم الذي يوفر لك أفضل راحة ويتم تركيبه في كل أذن. وقد تحتاج لتجربة جميع الثلاثة أحجام لتحديد أفضلها.

**ملاحظة:** لاختبار التوافق، جرب التحدث بصوت عالٍ. ينبغي أن يكون صوتك مكتوماً في الأذنين. وإذا لم يكن كذلك، اختر حجم سدادة آخر.

يتم التعليم على كل سدادة إما بحرف L (يسار) أو حرف R (يمين). تأكد من تثبيت السدادة اليسرى (L) بقطعة الأذن اليسرى والسدادة اليمنى (R) بقطعة الأذن اليمنى.




### وضع سماعات الرأس في أذنك

تسمح سدادة StayHear® لقطعة الأذن بالاستقرار بشكل مريح في تجويف أذنك. ويوضع الجزء المجنح من السدادة تحت أعلى الأذن مباشرة.

### لتحديد إذا ما كان حجم السدادة صحيح:

1. أدخل سماعة الرأس في الأذن بحيث تستقر السدادة برفق في فتحة قناة الأذن.
2. قم بإمالة سماعة الرأس للخلف واضغط جناح السدادة تحت أعلى الأذن إلى أن تصبح ثابتة. تستقر السدادات بشكل مريح ولكن ثابت في تجويف الأذن.



## استخدام سماعات الرأس

### الوظائف الأساسية

اضغط زر + ثم اتركه.	زيادة مستوى الصوت
اضغط زر - ثم اتركه.	خفض مستوى الصوت
عندما تتلقى مكالمة واردة، اضغط على زر الرد/الإنهاء ثم اتركه للرد على المكالمة.	الرد على مكالمة
اضغط زر الرد/الإنهاء ثم اتركه.	إنهاء مكالمة
اضغط مع الاستمرار على زر الرد/الإنهاء لمدة نحو ثانيتين ثم اتركه.	رفض مكالمة واردة
أثناء إجراء مكالمة، اضغط زر الرد/الإنهاء مرة واحدة ثم اتركه. واضغط الزر مرة أخرى ثم اتركه للعودة إلى المكالمة الأولى.	تحول إلى مكالمة واردة أو في وضع الانتظار وضع المكالمة الحالية قيد الانتظار
أثناء إجراء مكالمة، اضغط مع الاستمرار على زر الرد/الإنهاء لمدة نحو ثانيتين ثم اتركه.	التحول إلى مكالمة واردة أو في وضع الانتظار وإنهاء المكالمة الحالية
اضغط مع الاستمرار على زر الرد/الإنهاء. لمزيد من المعلومات حول التحكم الصوتي، راجع دليل المستخدم الخاص بجهازك.	استخدام التحكم في الصوت

### وظائف تشغيل الوسائط

اضغط زر الرد/الإنهاء ثم اتركه.	تشغيل أو إيقاف أغنية أو فيديو مؤقتاً
اضغط زر الرد/الإنهاء مرتين بسرعة.	الانتقال للأمام
اضغط زر الرد/الإنهاء ثلاث مرات بسرعة ثم اتركه.	الانتقال للخلف

قم بتوصيل سماعات الرأس بموصل سماعات الرأس القياسي 3.5 ملم في جهازك.




### استخدام سماعات الرأس مع جهاز

تأتي سماعات الرأس في الأذن Bose® SoundTrue® Ultra ومعها ميكروفون في الخط وجهاز ريموت 3 أزرار.


**ملاحظة:** تدل علامة S خلف جهاز الريموت أن سماعات الرأس هذه مصممة للاستخدام مع أجهزة Samsung Galaxy وأجهزة مختارة تعمل بنظام Android. قد لا تتوفر أدوات التحكم الكاملة لبعض الموديلات أو التطبيقات. راجع دليل مستخدم جهازك لمعرفة إذا ما كانت أجهزة الريموت تعمل مع الموديل الخاص بك.

### أدوات التحكم في سماعات الرأس




قم بتفريغ العلبة الكرتونية بعناية وتأكد من وجود الأجزاء التالية:

ميكروفون في الخط  
وجهاز ريموت 3 أزرار



مشبك ملابس



حقيبة حمل

سدادات StayHear® Ultra:



ملاحظة: سماعات الرأس مرفق معها سدادات StayHear® Ultra متوسطة (رمادية).

# حول سماعات الرأس داخل الأذن Bose® SoundTrue® Ultra

سماعات الرأس داخل الأذن Bose® SoundTrue® توفر مزيجاً من الأداء الصوتي النابض بالحياة والراحة في الاستخدام لا يتوفر في معظم سماعات الأذن التقليدية.

### الخصائص

- استمتع بالموسيقى بصوت عميق واضح وبانغماس كامل.
- توفر تكنولوجيا TriPort® الحصرية مستويات صوت منخفضة طبيعية حتى في الأصوات الأعلى.
- ميكروفون في الخط وجهاز ريموت لسهولة التبديل بين المكالمات والموسيقى بأجهزة Samsung Galaxy وأجهزة Android مختارة.
- سدادات StayHear® تبقى سماعات الرأس في مكانها بشكل مريح.
- تم تصميمها واختبارها للجودة الدائمة والمتانة.
- تقوم حقيبة الحمل بحفظ وحامية سماعات الرأس.
- متوفرة بألوان مختلفة لتناسب أسلوبك.

## المحتويات

4	حول سماعات الرأس داخل الأذن Bose® SoundTrue® Ultra
5	تفريغ المحتويات
6	التوصيل بجهازك
6	استخدام سماعات الرأس مع جهاز
6	أدوات التحكم في سماعات الرأس
7	الوظائف الأساسية
7	وظائف تشغيل الوسائط
8	أهمية التركيب الصحيح
8	وضع سماعات الرأس في أذنيك
9	تغيير سدادات الأذن
9	إزالة سماعات الرأس:
10	الضبط للراحة والثبات
10	استخدام مشبك الملابس
10	استخدام قطعة أذن واحدة
11	استكشاف الأخطاء وإصلاحها

Samsung Galaxy هي علامة تجارية لشركة Samsung Electronics Co.  
Android هي علامة تجارية لشركة Google Inc.

### يرجى استكمال سجلاتك والاحتفاظ بها:

يمكن العثور على الرقم المسلسل ورقم الموديل على علبة الشحن الأصلية الكرتونية وعلى بطاقة الضمان.

الرقم المسلسل \_\_\_\_\_

رقم الموديل \_\_\_\_\_

تاريخ الشراء \_\_\_\_\_

نحن نقترح عليك الاحتفاظ بليصال المبيعات مع دليل المالك هذا.

## معلومات السلامة الهامة

يرجى قراءة دليل المالك هذا بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

### تحذيرات:



- لا تستخدم سماعات الرأس في مستوى صوت مرتفع لأي مدة زائدة عن اللازم.
- لتجنب تلف السمع، استخدم سماعات الرأس في مستوى صوت مريح ومعتمد.
- قم بخفض مستوى الصوت في جهازك قبل وضع سماعات الرأس على أذنك ثم ارفع مستوى الصوت تدريجياً إلى أن تصل إلى مستوى استماع مريح.
- توخى الحذر واتبع القوانين المعمول بها فيما يتعلق بالهاتف المحمول واستخدم سماعة الرأس، في حالة استخدام سماعات الرأس للمكالمات الهاتف أثناء القيادة. وتفرض بعض السلطات القضائية قيوداً معينة مثل تهيئة قطعة أذن واحدة عند استخدام مثل هذه المنتجات أثناء القيادة. لا تستخدم سماعات الرأس لأي غرض آخر أثناء القيادة.
- ركز على سلامتك وسلامة الآخرين إذا كنت تستخدم سماعات الرأس أثناء القيام بأي نشاط يتطلب انتباهك مثل إثناء ركوب دراجة أو المشي بالقرب من حركة مرور أو موقع بناء أو سكة حديدية وما إلى ذلك. أخرج سماعات الرأس أو اضبط الصوت لضمان أنه يمكنك سماع الأصوات المحيطة بما في ذلك التنبيهات وإشارات التحذير.
- لا تستخدم محولات الهوائيات النقالة لتوصيل سماعات الرأس بمقاييس مقعد الطائرة فقد يؤدي ذلك إلى إصابة شخصية كالحروق أو تلف في الممتلكات بسبب السخونة الزائدة.
- أخرج سماعات الرأس وافصلها على الفور إذا كنت تعاني من إحساس بالحرارة أو فقدان الصوت.
- لا تقم بغمرها أو تعريضها للماء لفترة طويلة أو ارتداها أثناء الاشتراك في رياضة مائية مثل السباحة والتزلج على الماء وركوب الأمواج، الخ.
- لا تدع سماعات الرأس أو الملحقات تبتل. يجب عدم تعريض النظام للمطر أو الرطوبة لتقليل مخاطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية.
- لا تضع أية مصادر للهب المكشوف، مثل الشموع المشتعلة، فوق المنتج أو بالقرب منه.

تحذير: يحتوي على أجزاء صغيرة قد تتسبب في الاختناق. غير مناسب للأطفال الأقل من 3 سنوات.



تحذيرات: يحتوي هذا المنتج على مادة مغناطيسية. يرجى الاتصال بطبيبك إذا كان لديك أي أسئلة حول ما إذا كان هذا قد يؤثر على تشغيل جهازك الطبي القابل للزرع.



يتوافق هذا المنتج مع جميع متطلبات توجيه الاتحاد الأوروبي EU المعمول به. ويمكن العثور على البيان الكامل للتطابق في موقع: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)



هذا الرمز يعني أنه يجب عدم تجاهل المنتج كنفائيات المنزلية ويجب تسليمه إلى مرفق جمع مناسب لإعادة تدويره. ويساعد التخلص السليم وإعادة التدوير على حماية الموارد الطبيعية وصحة الإنسان والبيئة. لمزيد من المعلومات حول التخلص من هذا المنتج وإعادة تدويره، اتصل بالبلدية المحلية أو خدمة التخلص أو المتجر الذي اشتريته منه هذا المنتج.



أسماء ومحتويات المواد والعناصر السامة أو الخطرة						
المواد والعناصر السامة أو الخطرة						
اسم الجزء	الرصاص (Pb)	الزئبق (Hg)	الكاديوم (Cd)	سداسي الكروم (CR(VI))	ثنائي الفينيل المعالج بالبروم (PBB)	أثير ثنائي الفينيل المعالج بالبروم (PBDE)
لوحتات النواير المطبوعة (PCBs)	X	O	O	O	O	O
الأجزاء المعدنية	X	O	O	O	O	O
الأجزاء البلاستيكية	O	O	O	O	O	O
السماعات	X	O	O	O	O	O
الكبلات	X	O	O	O	O	O
يتم إعداد هذا الجدول وفقاً لأحكام معيار SJ/T 11364.						
O تشير إلى أن المادة السامة أو الخطرة الموجودة في كل المواد المتجانسة لهذا الجزء أقل من متطلبات التقييد في معيار GB/T 26572.						
X تشير إلى أن المادة السامة أو الخطرة الموجودة في أحد المواد المتجانسة على الأقل المستخدمة لهذا الجزء أكبر من متطلبات التقييد في معيار GB/T 26572.						



© 2015 Bose Corporation. لا يجوز استنساخ أي جزء من هذا الدليل أو تعديله أو توزيعه أو استخدامه على نحو مخالف بدون إذن كتابي مسبق.



740057-0010

***BOSE***<sup>®</sup>  
***Better sound through research***<sup>®</sup>

©2015 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM740057 Rev. 00